

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# انوار محی الدین

تصنیف:

اعلیٰ حضرت خواجہ شید سلیم احمد شاہ بخاری

باہتمام:

حضرت صاحبزادہ ابوالفیض شید منیر احمد شاہ بخاری

سجادہ نشین

آستانہ عالیہ شاہ غلام محی الدین دہلی  
تصویر شریف

مکتبہ حضورؐ

آستانہ عالیہ بنگلہ و صولہ شریف کمالیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# انوارِ محی الدین

تصنیف:

اعلیٰ حضرت خواجہ سید سلیم احمد شاہ بخاری

باہتمام:

حضرت صاحبزادہ ابوالفیض سید منیر احمد شاہ بخاری

سجادہ نشین

آستانہ عالیہ شاہ غلام محی الدین دائم الحضور قصبہ قصور شریف

مکتبہ حضوریه

آستانہ عالیہ بنگلہ دھولہ شریف کمالیہ

سگ میراں پیر الحاج  
محمد یونس محی الدین قادری

97- ٹیپو سلطان روڈ رسول پارک لاہور۔  
فون : 7592266

❖ آستانہ عالیہ بنگلہ دھور شریف، کمالیہ۔  
❖ آستانہ عالیہ دائم الحضور کوٹ غلام محمد قصور شریف  
❖ حاجی دین محمد قلبی برب نہر چونگی امرسدھولاہور

ملنگ  
پاکستان

# فہرست

7	عرض حال
11	مناجات
13	درنعت
15	درمدح
17	تعارف مصنف
25	اسلام کی آمد
26	حضرت خواجہ قصوری کا خاندانی پس منظر
30	مخدوم پنجاب حضرت خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ
35	ترک وطن
37	عزم پشاور
38	قیام پشاور
42	فضائل
43	درس و تدریس اور معمولات
44	کرامات
51	اولاد
54	حضرت خواجہ دایم العنوری

# ب

- 52 ..... حضرت خواجہ حافظ غلام مصطفیٰ
- 54 ..... حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری دایمہ الحضور
- 56 ..... دہلی کا سفر
- 57 ..... ابتدائی تعلیم
- 59 ..... بیعت مجددیہ
- 68 ..... خلافت و اجازت
- 75 ..... دہلی سے واپسی اور
- 75 ..... سیاسی حالات
- 77 ..... سیر و سفر اور تبلیغ دین
- 78 ..... شعر و ادب
- 81 ..... حلیہ مبارک اور لباس
- 82 ..... طریق گفتگو
- 84 ..... عادات و اطوار
- 89 ..... علمی فضیلت
- 93 ..... طریق بیعت
- 96 ..... نظریہ وحدت الوجود کی مخالفت
- 97 ..... تقاضائے وقت

## ج

100	وفات حسرت آیات
105	کشف، کرامات
145	خلفاء
147	اولاد
148	قصیدہ درس خواجہ عبدالرسول قصوری
150	حضرت خواجہ صاحبزادہ حافظ عبدالرسول صاحب قصوری
150	پیدائش اور ابتدائی حالات
160	عادات و فضائل
164	مہمان نوازی
166	انکساری طبع
181	وفات
197	مولانا خواجہ غلام نبی صاحب للی
198	معمولات
201	حلقہ
203	عادات

د

- 204 ----- طریق بیعت و خلافت
- 205 ----- کرامات
- 210 ----- لضانح
- 213 ----- وفات
- 215 ----- حضرت مولانا غلام مرتضیٰ بیربل شریف
- 225 ----- مولانا غلام دستگیر قصوری
- 227 ----- حضرت مولانا حافظ نور الدین چکوڑی شریف
- 228 ----- شیخ عطاء اللہ قندھاری
- 229 ----- حضرت مولانا غلام محمد صاحب
- 230 ----- حضرت مولانا مفتی غلام محی الدین چک میانی
- 231 ----- مولانا بدر الدین لدھیکی
- 233 ----- حضرت خواجہ نور محمد صاحب
- 235 ----- شجرہ نقشبندیہ
- 236 ----- شجرہ قادریہ

# عرضِ حال

بڑے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ایسے کنٹھن فریضے کی انجام دہی کا  
 سہرا بڑھی حد تک ان بزرگانِ دین، صوفیائے کرام اور مشائخِ عظام کے سر پہ جنہوں  
 نے کفر و شرک کی تند و تیز آندھیوں میں حق و صداقت کے چراغ روشن کیے اور رشد و  
 ہدایت کی وہ شمعیں جلائیں جنہوں نے راہِ گم کردہ انسانیت کو صراطِ مستقیم پر لا ڈالا۔ ان  
 بزرگانِ دین کی داستانیں بڑی طویل ہیں، انھیں قلمبند کرنے کے لیے بڑے بڑے دفتر  
 و کار ہیں۔ ان بزرگانِ دین اور صوفیائے عظام نے جگہ جگہ درس و تدریس کے لیے مکاتب  
 مدارس اور قلب و نظر کی اصلاح و تربیت کے لیے ذکر و فکر کے حلقے قائم کیے؛  
 جو این حق ملک کے دور دراز گوشوں سے اُتے اور اپنی تشنگی بجھاتے۔ اس طرح ان



بزرگانِ دین نے قرآنِ حکیم کے اس ارشاد کے مطابق کہ

..... تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہئے

جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔“

تبلیغِ اسلام کے لیے مردانِ پاکباز کی ایسی جماعتیں تیار رکھیں جنہوں نے  
با بر و ظالم حاکموں کے سامنے حق و صداقت کے نعرے بلند کیے۔ انہی بزرگانِ دین میں سے  
خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری کی ذاتِ گرامی ایک روشنی کے مینار اور چراغِ راہ کی طرح  
نظر آتی ہے۔ انہوں نے پنجاب میں سکھ گردی کے دور میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا  
فریضہ بہ احسن وجوہ انجام دیا۔ قصور کی مردم خیز سر زمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کے  
خاندان کی متعدد نامور شخصیتیں اسی خاک سے پیدا ہوئیں اور بالآخر ہمیں اُسودہ خاک ہو  
گئیں۔

یہاں صرف اتنا ذکر ہی کر دینا کافی ہو گا کہ خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری حضرت خواجہ  
غلام مرتضیٰ قصوری کے پوتے تھے اور حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری اپنے دور کی وہ  
بے بدل شخصیت ہیں جن کے سامنے پنجابی زبان کے ٹیکسپیہ حضرت پیراٹ شاہ اور معروف صوفی  
و شاعر حضرت بلھے شاہ نے زانوئے تلمذ طے کیا اور سلوک و معرفت کی منزلوں سے گزرے۔  
آپ کے حالاتِ زندگی مختلف کتابوں اور رسالوں میں بکھرے پڑے تھے اس بندہ ناچیز  
کو یہ خیال گزرا کہ آپ کے حالات کو کتابی شکل میں یکجا کر کے شائع کروں، شاید اللہ تعالیٰ  
اسی سعادت کی بدولت اپنا قرب بخش دے۔

ایک عرصہ تک یہ خیال دل ہی دل میں چٹکیاں لیتا رہا۔

اور پھر، طویل تلاش و جستجو کے بعد حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری کے حالات

یہ ہزار دقت جمع کیے اور آخر نصرتِ خداوندی سے اب اس کتاب کی اشاعت کی  
نوبت پہنچی ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست  
تانا بخشہ خدائے بخشندہ!

میں نے بڑی چھان بھٹک کے بعد تمام اختلافی پہلوؤں سے بچ کر آپ کے  
سوانح حیات کو قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے کوئی دنیوی منفعت مقصود  
نہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے ہمہ گیر حالات سے مریدین اور عام قاری مطمئن ہو گئے، تو  
میں سمجھوں گا کہ میری محنت و کاوش بار آور ہو گئی۔ کتاب کی ہر تعریف و توصیف کا پہلو  
خدائے پاک کی نصرت و امداد کا نتیجہ ہے اور تشنگی میری اپنی کم مائیگی پر دال ہے۔  
بڑی ناسپاس گزاری ہوگی اگر میں یہاں میں حافظ محمد مطلوب الرسول صاحب سجادہ نشین  
للہ شریف کی معاونت کا اعتراف نہ کروں انہوں نے کتاب کے مواد کے متعلق مفید مشوروں  
سے نوازا۔ اور ضرورت کے مطابق مواد کی ترتیب و تدوین میں بھی مشورے دیتے رہے۔  
برادرِ ماقبال احمد فاروقی بھی میرے انتہائی شکر یہ کے مستحق ہیں کہ کتاب کی اشاعت کے  
ہر مرحلے میں میری مدد کی۔

آخر میں مریدی خورشید کمالی کی خدمت اور محنت کا اعتراف بھی ضروری ہے حضرت  
خواجہ قصوری اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے حالات مندرجہ تھے۔ کوئی واقعہ کسی  
ایک شخص کے پاس موجود تھا تو دوسرا کسی دوسرے کے پاس۔ تصنیفات کا بھی یہی عالم تھا

کہ قلمی نسخے متعدد لوگوں کے پاس موجود تھے لیکن میری عدیم الفرصتی اور علالت سفر سے مانع رہی۔ یہ کام مریدی خورشید کمالوی کے ذمے لگایا کہ وہ ہر طرح کا مواد حاصل کریں اور حضرت خواجہ مقصوریؒ کی قلمی تصنیفات جس جس شخص کے پاس موجود ہیں ان کا پتہ چلائے۔ اس نے یہ کام پوری ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے

جزائے خیر دے۔

آپ کی اولاد اور آپ کے خلفاء کے حالات بھی اختصار کے ساتھ کتاب ہذا میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ انشا اللہ اس کتاب کی موجودگی ہر قاری کو آپ کے حالات کے متعلق باقی کتابوں سے بے نیاز کر دے گی۔ ترمیم و اصلاح کی گنجائش ہر تحریر میں ہوتی ہے اس سلسلے میں تمام مشورے بصد شکر یہ قبول کیے جائیں گے!

خادم الفقراء :

سید شبیر احمد عفی عنہ

# مناجات

بدرگاہ ربّ العزت مجیب الدعوات

تصنیف لطیف

غریب نواز شیخ الشیوخ خواجہ قیّد عالم  
حضرت شاہ محی الدین قصوری دائم المحضوری رحمۃ اللہ علیہ



خداوند ازبان من بشکر خویش تر گردان

و لم در ذکر تو ہر دم تنم در فکر سر گردان

خطیّات کہ میگردم غطیّات ز تو خواہم

ہمہ عیب است کار من بہ لطف خود ہنر گردان

بنزد ہر کسے دیدم مس قلم عیار آمد

بنار شوق خود قلب سیاہم را چو زر گردان

بذکر خود دل ما را طمانیت بہ بخشائی

بخود نزدیک تر فرما از غیرت دور تر گردان

دراں کاریکہ فرمودی دلم را ہوشیاری وہ

ازاں کاریکہ ترساندی دلم را بے خبر گردان

خطائے خود ہمیں گویم عطاے تو ہے جویم

رہ دوزخ ہی پویم تو فرو و سہم مقرر گردان

دلم از ظلمت عصیان کدورت بر کدورت شد

بآب دیدہ آترا صاف روشن چو گہر گردان

ز عشقت شعلہ ہا فروز در جان و دل من

انہیم یاد نام خویش و ہم آہ سحر گردان

دراں حالیکہ جان من بروں آید بصد تلخی

بتوجہ ہم موافق کن و ہا نم پر شکر گردان

دراں روزیکہ مردانہ ولد دور آید سر آید

شفیع و ملتجائے صدر ایوانِ حشر گردان

زمن اتحاف صلوات و سلام و رحمت و برکت

نثار تربت اُن حضرت خیر البرکت گردان

# در نعت

سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ علیه و علی آله

من الصلوة افضلها ومن التحیات اکملها



در صفِ مرغانِ خدائی بهاست  
 لعل سپید است ز کانِ ورود  
 بلبل او یوسفِ عبیری نهاد  
 راه خدا راست معالم از و  
 تاجِ عمرک لبهرشس تانفته  
 از همه و تانفته خورسند او  
 پروی و پر آل و صحابش تمام  
 عاشق او تشنه باران او  
 ثانی اثنین و رفیق قدیم

پاک محمد که شتر انبیاست  
 باز سپید است بر اوج وجود  
 پر پر او هست سلیمان را و  
 امی و عالم شده عالم از و  
 خلعت بولاک بر یافت  
 خواجّه ما نامه در بند او  
 باد و روش ز خدا صبح و شام  
 خاصه بر آن افضل یاران او  
 بو بکر آن بکره اصیلش ندیم

قاتل هر کافر و نزدیک شد  
 ای شریفیش بوقت کتاب  
 کرد دل کفر بدیده و شوق  
 جامع آیات کلام خدا  
 زره صفت و آله و رقاص او  
 جان و تنم بر تن و جاننش فداست

فضل خدا یافته صدیق شد  
 باز بر آن صاحب فضل الخطاب  
 میر جهان عادل و فاروق حق  
 یار سوم معدن علم و حیا  
 حضرت عثمان غنی خاص او  
 یار چهارم که علی مرتضی است

شیر خدا مرد بیدان دین  
 رو آید هر که باو شد بکین

# در مدح

جناب غوثیت مآب محبوب سبحانی شیخ حقانی ابو محمد  
سیدی حضرت شیخ عبدالقادر حیلانی قدس سره الحزین

❖

دامنش از صدق گرفته متین  
سرور و رحمتین و بتول  
شمس حقیقت بمخارن تمام  
کرد خدا ختم ولایت و را  
رفتنش و آمدن از باب سر  
با نور و فتح الهی صنم است  
روح نه در لطف چه جسمش بود  
اونه بجز عجز متاع خرید  
اوسر پا بر سرافسر نهاد

پیر جهان مرشد من محی الدین  
نور و عینین و حکم رسول  
شاه شریعت بطریقیت امام  
ختم نبوت بجدش شد عطا  
سر دلش ز اهل دلان مستتر  
نام گرامیش که اسم اعظم است  
اسم خدا جز و را شمس بود  
قدرتش از قادر مطلق رسید  
انس و ملک بر قدمش سر نهاد



برکتفِ جمله ولی باپی او  
 حلقه بگوشِ در او کیفتیاد ،  
 روز و شبانست روانِ جوی او  
 باد مسیحا ز دم او عیان  
 سگ نشانند عداوت درش  
 صنعتِ صنعان همه بر باد کرد  
 از نظرِ لطف چو سینا نمود  
 خطّه جلیان غزایش باغ داد  
 نوره عالم روحانی است  
 طالبِ افضال مزیدِ ویم !  
 قاصر م از نعمتِ شکران او

ذاتِ خدا طالبِ رضای او  
 والی اطراف و ولی الحیاد  
 حاتم طائی است عطا جوی او  
 آبِ خضر ز یر لب او نهان  
 شیره کشانند سگانِ درش  
 غیرتش از قهر چو بنیاد کرد  
 سینّه شب رو که شبِ تار بود  
 مشرق آن شمس سپهر سداد  
 مغرب آن مشرق نورانی است  
 منکه ز آغاز مریدِ ویم !  
 روز و شبم غرق در احسان او

از من و نشاد و شش بادشاد

تحفه رهنوان اکهیش باد !



## تعارفِ مصنف

قصور شریف کا مشہور و معروف بخاری خاندان سادات کسی  
تعارف کا محتاج نہیں اور نہ ہی خاندانی علمی دروہانی عظمت و بزرگی و معنی  
چھپی بات ہے۔ اس خاندان کا ہر بزرگ باکرامت ولی اور عالم باعمل ہوا  
ہے۔ جنکی علمی قابلیت اور روحانی اہلیت سے ہزاروں طالبان حق بہرہ ور  
ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں اور انشا اللہ ہوتے رہیں گے۔ اس خاندان ذی  
شان کا اصلی وطن ساہیوال ضلع سرگودھا ہے۔ لیکن جب حضرت سید  
غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت ثانی خواجہ حافظ ابو  
سعید عبدالرسول شاہ صاحب قصوری رح فرزندِ جانِ نشین حضرت اعلیٰ خواجہ  
شاہ غلام محی الدین قصوری داتم الحضوی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔  
اور پھر انہیں خواجہ موصوف سے خلافت عطا ہوئی تو آپ یہیں مستقل سکونت  
پذیر ہو گئے۔ اس طرح قصور اور آپ کا خاندان لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے ہیں

مبلغ اسلام و تصوف مجمع فیوضات و منبع منات حضرت الحاج  
 خواجہ سید شبیر احمد شاہ صاحب بخاری قصوی رحمۃ اللہ علیہ اسی خالوادہ کے  
 چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی ولادت بلعادت قصور شریف میں ہوئی۔ آپ نومبر  
 ۱۹۴۶ء ۳ شنبہ (منگل وار) کی شب بوقت نماز عشا۔ منصہ شہود پر جلوہ افروز  
 ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت حافظ سید احمد شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ اگر  
 ان کے یہاں پوتا پیدا ہوا تو وہ اس کا نام "شبیر" رکھیں گے۔ لیکن آپ  
 کی پیدائش سے چھ ماہ قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ لہذا آپ کے والد حضرت  
 سید نذیر احمد شاہ صاحب اور حضرت حافظ سید محمد شاہ صاحب نے ان  
 کی خواہش کے احترام میں آپ کا نام "شبیر احمد" رکھا۔

ابتدائی دینی تعلیم آپ نے والد بزرگوار کی زیر نگرانی گھر پر ہی  
 حاصل کی۔ پھر آپ کو باقاعدہ سکول داخل کیا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ والد  
 صاحب سے کتب معقول و منقول کی تعلیم بھی لیتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب  
 قبلہ نے ظاہری علوم کے علاوہ آپ کو کم عمری ہی میں روحانی علم سے بھی  
 بہرہ ور کیا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ اور سہروردیہ میں  
 بیعت لی۔ ان کے اذکار، مقامات اور القائے فیض کے طریقے بھی الگ  
 الگ تعلیم فرمائے۔ ابھی آپ اسلامیہ ملٹی سکول قصور میں دسویں جماعت  
 کے طالب علم تھے کہ والد صاحب کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔

ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اور تعلیم منقطع ہو گئی۔ لیکن دستار بندی کے بعد آپ نے نامور علماء کو پاس رکھ کر حصول علم کے تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ نے سجادہ نشینی کے منصب پر فائز ہوتے ہی اپنے بزرگوں کی یاد تازہ رکھنے اور ان کے فیض علمی و روحانی سے عوام الناس کو آشنا کرانے کیلئے ان کے عرس کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ اس کیلئے ماہ اسوج کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن مقرر کیئے۔ اور حضرت خواجہ قصویٰ دائم المحضوی کے مزار پر الوار پر ایک عظیم الشان قبہ زر کثیر کے تعمیر کرنے کا کام شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے۔ علاوہ ازیں سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ مظہریہ، قصویہ، حضویہ کی ترویج و اشاعت اور خاندانی بزرگوں کے آثار اور ان کے کارناموں کو زندہ رکھنے کا کام بھی کیا۔

کتاب ہذا "الوارحی الدین" جو آپ حضرت "خواجہ قصویٰ دائم المحضوی" کے حالات زندگی پر تصنیف فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ تقسیم ملک سے چند سال پہلے آپ قصور شریف سے چلے گئے اور دھولہ شریف علاقہ کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ لیکن قصور شریف آمدورفت رہی۔ اس پسماندہ علاقہ میں درود پذیر ہونے کے بعد آپ لوگوں کو رشد و ہدایت کا درس دینے لگے۔ تاکہ ان کی دینی اور دنیوی زندگی کی اصلاح ہو۔ یہ اسی مرد خود آگاہ کے

فیض نظر اور تعلیم و تربیت کا اعجاز ہی تو ہے کہ یہاں کے لوگوں کی کایا  
پلٹ گئی۔ مریدین کا تزکیہ نفس ان کی روحانی قوت کو فروغ دینے اور ان  
کے دلوں میں عشقِ حقیقی کو موجزن کرنے کیلئے آپ ذکر و فکر کے حلقہ کا  
اہتمام کرتے اور حسب استطاعت ہر ایک کو توجہ بھی دیتے تھے۔

آپ صاحبِ کرامت اور منصبِ قطبیت پر فائز ولی کامل  
تھے۔ اور آپ محمدی المشرق تھے۔ آپ دو مرتبہ روضۂ رسولؐ پر  
حاضری دے آئے تھے۔ آپ کا اخلاقِ کریمانہ اخلاقِ محمدیؐ کا نمونہ تھا

بے حد حلیم انتہا کے خلیق بڑے مہربان، مہمان نواز، غریب پرور اور مسکین  
نواز تھے۔ آپ نہایت پرہیزگار تھے۔ شریعت نے جن امور کو نواہی میں  
داخل کیا ہے۔ ان سے مجتنب تھے۔ اپنے عقیدت مندوں اور مریدین  
کے علاوہ عام لوگوں کو بھی دین اور شریعت کے احکام کی پابندی کا  
درس دیتے تھے۔ آپ تقویٰ و دُرع میں بلند مقام تھے۔ طبیعت  
فخر و مباهات سے بالکل پاک تھی۔ انکساری، مستقل مزاجی، استغناء  
اور سخاوت آپ کا خاصہ تھی۔ گویا آپ ہمہ صفت موصوف تھے۔  
آپ کے درجاتِ ولایت اور تصرف اور کرامات بے حد ہیں۔

تبلیغِ اسلام کا جذبہ بھی آپ میں بہت تھا۔ اسی جذبہ کے  
تحت اللہ کا یہ ولی ملک کا گوشہ گوشہ پھرا۔ بلاشبہ آپ کا شمار اسلام کے  
ان نفوسِ قدسیہ میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے اسلام کی انقلاب آفرین تعلیمات

کو برصغیر کے گوشہ گوشہ میں پھیلانے کے باب میں مقدور بھر کوشش کی۔ اور ان تعلیمات کے عملی قالب میں خود کو ڈھالنے کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپکی حیات طیبہ فرزند ان توحید کے لئے شمعِ عمل کی حیثیت کی رکھتی ہے۔ خواجگانِ قسویہ حضورِ یہ میں سے حضرت تواجہِ دائمِ الحضورِ قسویہ کے بعد آپ کی ذات ستودہ صفات سرفہرست ہے جس نے وقت کے تقاضے کو محسوس کیا اور تبلیغ و اشاعتِ اسلام کی اہم ترین ذمہ داری کو بہ احسن وجود پورا کیا۔ آپ مسلمانوں کی زندگی کے سر پہلو میں اسلامی تعلیمات کی ترویج چاہتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کو بھی لازم قرار دیتے تھے۔ اور یہ امر آپ کی وسعتِ نظر اور عظیم الشان مقصد کی غمازی کرتا ہے۔ اور اپنے ہم عصروں پر آپ کو فوقیت عطا کرتا ہے۔ بلاشبہ آپ کا وجود مسعود اس پر آشوب دور میں منتغیات میں تھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صاحبِ دل، صاحبِ نظر، اور صاحبِ علم بزرگ تھے۔ یہی وجہ تھی جو آپ کی مجلس میں علماء اور صوفیاء ایک ساتھ بیٹھے نظر آتے تھے۔ آپ کے مریدین کی خواہش تھی کہ آپ ان کے ہاں چک ۷۳۲ سوئیاں والا کمالیہ میں آکر ایک تبلیغی جلسہ کی صدارت فرمائیں۔ آپ اس جلسہ کے لیے ۱۳ شوال (۲۳) دسمبر) بروز منگل دار کی تاریخ

مقرر کی اور تیاری کا حکم دیا۔ عید الفطر کے بعد قصو شریف شریف لے گئے۔ وہاں حاضری کے بعد آپ سید سے چک نمبر ۳۲ پہنچے۔ رات کے وقت اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک در د تھا جو سینے سے اٹھا اور تمام رات آپ کو بے چین کتے رکھا۔ جب سحر قریب ہوئی تو درد نے ایک اور کیفیت اختیار کر لی۔ آپ پر استغراق طاری تھا۔ اور کمرہ اللہ ہو کی صدا سے گونج رہا تھا۔ سننے والے سن رہے تھے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے۔ سب دم بخود کھڑے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ آپ کے ہونٹ آپ کے ہونٹ ملے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ پھر سکرانے اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنّٰی إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اس قبلہ حاجات منظر الطاف و کرم کے وصال باکمال کا واقعہ طلوع آفتاب سے قبل ساڑھے چھ بجے بروز منگل وار موخہ ۲۳ دسمبر ۱۹۶۹ء کو رونما ہوا۔ خبر ملتے ہی مرد و زن میں شور برپا ہو گیا۔ آپ کو اسی وقت اپنی رہائش گاہ دھولہ شریف لایا گیا ۲½ بجے شام آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور آپ یہیں آسودہ خاک ہوئے۔

۲۳  
راقم الحروف نے آپ کے وصال باکمال کی تاریخ بھی ہے۔

مدار اہل شریعت حضرت خواجہ شبیرؒ  
باقضائے ایزدی رخصت ہوئے سوتے ارم  
گفت خورشید آہے ز دل کشید  
"رخ شبیرؒ عابد" برائے خستہ دل مرہم

۱۳۸۹ ہجری

آپ کے پہلے کے موقعہ پر جو ۲۹ جنوری ۱۹۷۰ء بروز جمعرات  
کو ہوا تھا۔ اس میں آپ کے فرزند اکبر حضرت صاحبزادہ ابوالفیض  
سید نیر احمد شاہ کی دستا بندی ہوئی اور جانشینی کے فرائض کی  
ذمہ داری بھی سپرد کی گئی۔ آپ کے دو صاحبزادے اور بھی ہیں۔  
حضرت سید محمد شتاق احمد شاہ اور حضرت سید محمد سعید احمد شاہ المعروف  
حاجی پیر۔ یہ دونوں بھائی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے۔  
ہیں۔ فضیلت مآب ابوالفیض حضرت صاحبزادہ محمد نیر احمد شاہ صاحب  
نے اس منصب کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی اپنی خداداد روحانی۔  
صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ اور لوگے حلقہ ارادت کا دورہ  
کرنے کے بعد ارادت مندوں سے اپنا ٹھوس رابطہ قائم کر لیا ہے۔  
وہ اپنے سلف صاحبین کی طرح متقی، پرہیزگار، خدا پرست و  
خدا ترس شخصیت ہیں۔ جو دو سخا میں بھی اپنے بزرگوں کی طرح



پیش پیش ہیں۔

آپ اس جوانی کے عالم میں مسند روحانیت پر جس  
اندازِ ممانت سے متمکن ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ  
وہ اس آستانہ عالیہ کے روحانی تقاضوں کو تادمِ آخر لبِ حسن  
ان نظام والنظام پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہیں گے۔

خوشید کالوی

کمالیہ  
یکم مارچ ۱۹۹۰ء

## برصغیر پاک و ہند میں

# اسلام کی آمد !

برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی فتح و نصرت کا پہلا ریلہ سندھ کے راستے آیا جب کہ فاتح سندھ محمد بن قاسم نے ۶۱۲ء میں راجہ داہر کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مٹھی بھر حق پرستوں کے ساتھ سارے سندھ کے علاقے پر ہلالی پرچم لہرایا۔ محمد بن قاسم نے ملتان تک کا علاقہ فتح کر کے برصغیر میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ مسلمانوں کے اندرونی انتشار و خلفشار کی بدولت یہ سلطنت نہ تو زیادہ مستحکم ہو سکی اور نہ زیادہ دیر تک قائم ہی رہ سکی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سندھ باب اسلام کہلانے لگا اور برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا راستہ کھل گیا۔

چنانچہ !

ایک عرصہ تک ایران اور عرب سے مسلمان اسی راستے سے برصغیر میں داخل ہوتے رہے۔ جو مسلمان عرب سے برصغیر میں وارد ہوتے تھے ان کی اکثریت سندھ اور ملتان

”الناس علیٰ دین ملوک ہم۔“  
 ”لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے  
 ہیں!“

شاہجہاں کی علم دوستی اور دینداری نے عوام و خواص کو یہی روش عطا کی۔ خود اس کا ثبوت قصور کے عوام کی اس مثال سے ملتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت خواجہ عبدالملک کے علم و فضل کا شہرہ سنا تو آپ کے لیے نہ صرف دیدہ دل فرشتہ راہ کیے بلکہ آپ کو قصور آنے اور اپنے علم و فضل کی شمع سے اس گوشے کو بھی منور کرنے کی دعوت دی۔

انہی دنوں مغلیہ سلطنت کے ایک سفیر وکیل خاں مرحوم کی بیوہ نے قصوری سو داگروں سے یہ فرمائش کی کہ وہ کوئی صحیح النسب قریشی لڑکا تلاش کریں تاکہ وہ اپنی لڑکی کو اس سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر سکے۔ حضرت حافظ عبدالملک کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ صحیح النسب قریشی بھی تھے۔ چنانچہ قصوری سو داگروں نے آپ کو قصور آنے کی دعوت دی۔ تاکہ وکیل خاں مرحوم کی بیوہ کی خواہش بھی پوری ہو سکے اور اس علاقے کو آپ ایسا زاہد و متقی عالم نصیب ہو جو یہاں علم و فضل کی شمع روشن کرے، چنانچہ آپ ان قصوری سو داگروں کی دعوت پر تشریف لائے۔ یہ آمد کیا تھی گویا حضرت خواجہ حافظ حاجی عبدالملک کی اولاد اور قصور لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے۔ آپ کی شادی وکیل خاں مرحوم کی صاحبزادی سے ہوئی اور پھر آپ نے مستقل رہائش قصور میں اختیار کی۔

اس سے یہ امر بھی پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس وقت تک حضرت خواجہ عبدالملک کے علم و فضل کا شہرہ سندھ سے نکل کر دور دور تک پہنچ چکا تھا ورنہ سندھ ایسے دور و راز اور پسماندہ علاقے میں ایک مرو خدا دست کی موجودگی کا علم اہل تصور کو کس طرح ہو سکتا تھا۔

تصور میں ورود پذیر ہونے کے بعد آپ نے یہاں درس و تدریس اور ذکر و نکر کا سلسلہ شروع کیا اور پھر ایک عالم آپ کا گرویدہ ہو گیا۔

افسوس ہے کہ حضرت خواجہ عبدالملک کے تفصیلی حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ نیز چونکہ کتاب ہذا میں حضرت خواجہ غلام محی الدین تصورؒ کی وائے المحضوری کے حالات تحریر کرنا مقصود ہے اس لیے خاندان کے دوسرے بزرگوں کے حالات کی تفصیلات کی نہ تو گنجائش ہے ورنہ ہی عدیم الفرستی اس کی اجازت دیتی ہے کہ شبہ نیز قلم کو شاہ راہ کی بجائے پگڈنڈیوں پر بھی دوڑانا رہوں۔

البتہ !

اجمالاً خاندان کے دوسرے بزرگوں کے حالات بھی ورطہ تحریر میں آتے جائیں گے اور اس کا مضائقہ بھی نہیں !

حضرت خواجہ عبدالملک کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے مخدوم پنجاب حضرت خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ جانشین مقرر ہوئے۔ سعادت مند بیٹے نے درویش خدا دوست باپ کی مسند سنبھالنے کا نہ ہی صرف حق ادا کیا بلکہ والد نے علم و فضل کی جو شمع روشن کی تھی اس کی لو کو اور بھی تیز کر دیا۔

## مخدوم پنجاب حضرت خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ

آپ اپنے والد باکمال کی طرح ظاہری اور باطنی علوم سے پوری طرح منتصف تھے  
آپ کے والد مرحوم نے درس و تدریس کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اسے آپ نے غایت  
کمال تک پہنچایا۔

آپ زبردست عالم دین، حافظ قرآن، جید نقیبہ اور عظیم محدث تھے۔ آپ کو  
منطق، فلسفہ، اسما، الرجال، صرف و نحو، شعر و ادب غرض کہ تمام علوم متداولہ  
پر کمال عبور حاصل تھا۔ آپ کے درس کی اس قدر شہرت تھی کہ برصغیر کے کونے کونے سے  
تشنگان علم کی ایک بڑی تعداد مقصور کھینچی چلی آتی تھی۔ یہاں یہ لوگ علم کی پیاس  
بجھاتے اور اس مردِ خدا و دست کی بدولت ان کے قلب و نظر میں وہ انقلاب پیدا  
ہوتا جس سے ان کی دنیا ہی بدل جاتی اور وہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے جذبے سے  
اپنے سینے معمور کر کے واپس جاتے۔

روایت ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں ہر علم پر کتابیں پڑھنے والے طلباء کی تعداد  
پانچ سو تھی۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ تقریباً چودہ سو طلباء بیک وقت تعلیم حاصل کرتے  
تھے۔ درس و تدریس کے سلسلے کی توسیع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پنجابی  
زبان کے شیکسپیر اور ہیرانجھا کے خالق حضرت پروارث شاہ اور مشہور صوفی  
شاعر علی شاہ ایسی ہستیوں نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ ان دونوں  
بزرگوں کے والدین نے انہیں مکمل طور پر حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ کے سپرد کر دیا

تھا۔ آپ نے اپنی زیرنگرانی دونوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ یہ اس مردِ خود آگاہ کا فیضِ نظر تھا یا اس کی تعلیم و تربیت کا اعجاز کہ یہ دونوں شاگردِ آج بھی آسمانِ شہرت پر درخشندہ و تابندہ ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ اور جب تک سورج کی گردش جاری ہے اور زمین و آسمان قائم ہیں ان کی شہرتِ عام اور بقائے دوام میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس شہرت میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔

حضرت پیر وارث شاہ اور پیر علی شاہ نے علوم ظاہری کے علاوہ علوم باطنی کی منزلیں بھی آپ کے زیر تربیت طے کیں۔ اگرچہ بعد میں یہ دونوں شاہ عنایت اللہ کے دست پر بیعت ہوئے لیکن عشقِ حقیقی کی آگ حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ ہی نے دونوں کے سینوں میں روشن کی تھی۔

عشقِ حقیقی کی یہ آگ جب بھڑکی تو وارث شاہ نے اپنے جذبات کو بہیرا نچھا کی صورت میں شعریت کا جامہ پہنایا۔ ظاہر بین نظر میں ہمیشہ پانی کو سراب اور سراب کو پانی سمجھتی ہیں ایسے ہی لوگوں نے حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ سے شکایت کی کہ

”آپ کا شاگرد وارث جس کی تعلیم و تربیت کا آپ نے اس قدر اہتمام کیا تھا۔ دنیوی عشق کی آگ میں چل کر کسی عورت کی توصیف میں مصروف ہے۔ یہ بڑی بدنامی کی بات ہے کہ وہ ایک عورت کے عشق میں یوں ہلکان ہو کر آپ کے

نام کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ کم از کم اسے  
اس بات کا خیال رکھنا چاہئے تھا۔

آپ کو اس کا بڑا رنج ہوا۔

کیونکہ آپ نے وارث شاہ کی تربیت بڑے اہتمام سے کی تھی۔  
وارث شاہ کا قیام اس وقت ملکہ ہانس میں تھا فوراً انہیں اپنے پاس طلب  
کیا۔ وارث شاہ نے حضرت کا حکم سنا تو سر کے بل قصور پہنچے۔  
آپ نے درویشوں کو حکم دیا کہ انہیں ایک مقفل کمرے میں رکھا جائے۔  
حکم کی تعمیل ہوئی!

صرف نماز کی ادائیگی کے لیے باہر نکالا جاتا اور پھر کمرے میں مقفل کر دیا جاتا۔  
اسی طرح تین روز گزر گئے۔ چوتھے روز حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ جامع مسجد قصور  
میں حوض پر بیٹھے نماز عصر کے لیے وضو فرما رہے تھے کہ خادموں کو حکم ہوا  
”وارث کو پیش کیا جائے۔“

خدا ام دوڑے اور پیر وارث شاہ کو لا کر پیش کیا۔  
پیر وارث شاہ سر نہیوڑائے کھڑے تھے کہ دیکھئے کیا حکم ملتا ہے۔  
فرمایا!

”وارث اپنا کلام مجھے سناؤ!“

حکم کی دیر تھی کہ سینے میں نہاں عشقِ حقیقی کی آگ شعروں کی صورت میں لپکنے لگی۔ کلام کی سحر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ آپ پر وجد طاری ہو گیا۔ جب حالت ذرا سنبھلتی تو فرماتے کہ

” ہمارے سر پر پانی ڈالو !“

اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت تنگ ہونے کو آیا۔ پھر وضو کیا اور وارثِ شاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا :

” وارث !“

تم نے منج کی رسی میں موتی پر ویسے ہیں  
ورنہ تمہارا یہ کلام علماء منبر پر  
پڑھتے !“

قصور میں آپ کا قیام مسجد کلاں اندرون موری و روازہ میں تھا۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ زبردور ریاضت میں بھی شب و روز مصروف رہے۔

## بیانے کشتہ !

منشی مولانا بخش کشتہ امرتسری مرحوم اپنی کتاب ”پنجابی شاعران و تذکرہ“ میں لکھتے

ہیں اس کا خلاصہ راقم کے الفاظ میں سن لیجئے :



”بلھے شاہ نے مولوی غلام مرتضیٰ قصوری سے ظاہری علم پڑھا۔ بلھے شاہ اور پیر وارث شاہ ایک ہی دارالعلوم کے طالب علم ہیں۔ دونوں ہی حضرت مخدوم سے مستفیض ہوئے، جو خود بھی پنجابی زبان کے اچھے شاعر تھے۔ اگے بڑھ کر کشتہ مرحوم حضرت وارث شاہ کے حال میں لکھتے ہیں :

”وارث جوان ہوئے تو مولوی غلام محی الدین  
 قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرس مسجد  
 یا مولوی غلام مرتضیٰ سے پڑھتے رہے۔  
 یہاں سے فارغ تحصیل ہو کر پاک پتن  
 چلے گئے۔“

## ترکِ وطن !

آپ شریعت کے معمولات پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھے۔ خلافِ شریعت معمولی فعل بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ یہ دور مسلمانوں کے انحطاط و زوال کا دور تھا۔ دولتِ مغلیہ کا آفتاب اقبال گہنا چکا تھا۔ انحطاط کے اس دور میں حکمران شاہد و شہزادے اپنی غرق تھے اور عوام بھی حاکمانِ وقت کو دیکھتے ہوئے بے راہ رو ہو رہے تھے۔ اپنے گرد و پیش یہ فسق و فجور دیکھ کر آپ کی دینی غیرت جوش میں آئی اور اس سرزمین سے استفادہ نصرت پیدا ہو گئی کہ آپ نے ترکِ وطن کا عزم کر لیا۔

انہی دنوں پنجاب میں سکھ گردی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت، افتراق و انتشار اور بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ سکھوں کی طرف سے تصور پر بھی حملے شروع ہو چکے تھے۔

آپ مسلمان حکمرانوں کی دین سے بیزاری اور بے راہ روی دیکھتے اور فرماتے کہ حلت و حرمت اور امر و نواہی سے یہ روگردانی مسلمان حکومت کو ختم کر کے ہی دم لے گی اور اب اس کے قیام کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔

آپ اس سرزمین کو جلد از جلد چھوڑ دینا چاہتے تھے کیونکہ بندگانِ خدا پر یہاں زمین اور آسمان دونوں تنگ ہو رہے تھے۔ لیکن آپ ان طالب علموں کے متعلق سخت پریشان تھے جو کالے کوسوں دور کا فاصلہ طے کر کے محض علم کی تشنگی بھجانے اور اپنے قلب و نظر کی اصلاح و تربیت کے لیے حلقہٴ درس میں صرف خدا کے توکل پر بیٹھے ہوئے تھے۔

عقیدت مند مصرفقہ کہ آپ کم از کم ان طالب علموں کی خاطر ہی ارادہ بدل دیں۔  
 آپ کو ان طالب علموں سے بڑی محبت تھی۔ یہ عجیب تذبذب کا عالم تھا اور اس  
 دشواری کا کوئی حل سمجھائی نہ دیتا تھا۔

ایک رات !

اسی تذبذب کے عالم میں غور و فکر میں محو تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے  
 دیکھا کہ کوئی پکار کر کہہ رہا ہے :

” مَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ  
 الْمُسْلِمِينَ فَأُخْرِجْنَا مِنْهَا مَنُ

كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ط

” ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کا ایک ہی

گھر پایا اور پھر اہل ایمان کو وہاں سے

حفاظت کے ساتھ نکال لیا۔“

اسی غیبی اشارے نے منشاء خداوندی کو اظہر من الشمس کر دیا تھا۔ !

اور اب !

تصور میں قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

# عزمِ پشاور !

جو نہی صبح کا سورج نمودار ہوا۔ آپ نے طلبا اور مریدین میں ہجرت کا اعلان کر دیا اور پشاور کے لیے رختِ سفر باندھا۔ یہاں ایک عالم آپ کے ارشادات سے مستفیض ہو رہا تھا۔ اہلِ قصور بھی آپ کے اس فیصلے پر بڑے مضطرب تھے لیکن کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر آپ کو اپنا ارادہ بدل دینے کا مشورہ دیتا۔

حافظ رشید خاں پشاوری تمام طلبا کی ضروریات کے کفیل تھے اور آپ کے زبردست عقیدت مندوں میں سے تھے۔

حافظ رشید خاں کے ساتھ کچھ اور عقیدت مندوں نے مل کر کسی خادم کی وساطت سے لوگوں کے جذبات و احساسات سے آپ کو آگاہ کیا لیکن آپ اپنے عزمِ صمیم پر قائم رہے اور فرمایا کہ

”جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں پہنچا تھا ہم نے اپنے ارادے کو مخفی رکھا اب ارشادِ خداوندی آن پہنچا ہے تو مجال نہیں کہ اس میں کسی قسم کا توقف کروں۔ حکمِ الہی کی نافرمانی کی مجال میں اپنے اندر نہیں پاتا۔“

یہ فرمایا اور درس کا انتظام اپنے صاحبزادہ حضرت خواجہ غلام مصطفیٰ صاحبؒ کے سپرد کر کے خود پشاور روانہ ہو گئے۔ حافظ رشید خاں پشاور ہی آپ کے مختصر سے

قافلے میں شریک تھے۔ دراصل پشاور کو مستقر بنانے کے محرک بھی یہی تھے۔

## قیام پشاور !

پشاور پہنچ کر آپ نے اپنا قیام دروازہ داب گراں کے نزدیک رکھا۔ اہل پشاور کو جب اس درویش خدا دوست کی آمد کا علم ہوا تو وہ جوق و جوق گھروں سے نکلے اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ تشریف آوری اور مستقل قیام کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی اور پھر بیعت و عقیدت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے یہاں بھی زکر و نکر کا باقاعدہ حلقہ قائم کیا تاکہ مریدین اور دوسرے لوگوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہو۔ اور مسلمان احکام شریعت پر عمل پیرا ہوں۔

تجربہ علمی اور روحانی عظمت و جلال کا شہرہ جلد ہی اس علاقے میں پھیل گیا۔ ابھی رشد و ہدایت کے اس آفتاب نے تیرہ و تار گوشوں کو پوری طرح منور بھی نہ کیا تھا، جو یانِ حق اور تشنگانِ علم و فضل کی پیاس بھی بھجنے نہ پائی تھی کہ

”كَلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط“

” ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے !“

(القرآن)

کا پیغام پہنچا۔

پشاور کا عرصہ قیام مشکل و وسال ہوتا ہے۔ سر زمینِ قصور میں اس وقت احکام شریعت کی جو بے حرمتی ہو رہی تھی شاید اسی کے پیش نظر آپ نے یہاں آسودہ خاک ہونا بھی گوارا نہ کیا۔ بہر حال قصور سے پشاور کا عزم کرنے والا یہ مردِ حق آگاہ صرف دو سال

کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اناشد وانا الیہ راجعون ط

جب آپ کی رحلت کی اطلاع قصور میں مریدین اور اقربا کو پہنچی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جسد مبارک کو قصور لاکر دفن کیا جائے لیکن پشاور کے عقیدتمندوں اور مریدوں کی مخالفت کا خوف وامن گیر رہا اور اس خیال سے یہ خواہش تشنہ تکمیل رہی۔ عرصہ سات اٹھ سال کے بعد صاحبزادگان کے حکم پر ایک عقیدتمند شجاعت علی خاں صاحب کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر پشاور پہنچے۔ انہوں نے حکمتِ عملی سے کام لیا۔ کسی پر اپنے ارادے کو ظاہر نہ ہونے دیا اور ایک رات خاموشی سے مزار مبارک کے تہ خانے کا دروازہ کھولا۔ تابوت نکالا اور وہاں سے قصور کی طرف کوچ کیا۔ تہ خانے کا منہ اس احتیاط سے بند کیا گیا کہ کسی کو شک تک نہ گزرا۔

یہ مختصر سا قافلہ منزلیں مارتا ہوا جب کاہنا کا چھاکے قریب پہنچا تو رات ہو چکی

تھی۔

یہ سیکھ کر دی کا دور تھا۔

بعض سکھوں نے سمجھا کہ یہ لوگ کوئی خزانہ لیے جا رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے قافلے والوں کو سوتا ہوا دیکھ کر چپکے سے تیز دھار آلات سے صندوق کو کاٹنے اور توڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اس معاملہ کو صبح پر چھوڑ دیا۔

اسی رات شجاعت علی خاں کو خواب میں خواجہ صاحب کی زیارت نصیب ہوئی

آپ نے فرمایا

”میرا دھنو ٹوٹ گیا ہے جلدی سے دھنو

کرا دو۔"

صبح ہوئی تو سکھ بصدقے کہ صندوق کھولا جائے۔ چنانچہ جب صندوق کھولا گیا تو دیکھنے والے انگشت برداں رہ گئے۔ کیونکہ آپ کے جسد مبارک کی ایک پنڈلی سے تازہ خون جاری تھا اور روئی خون سے تر بتر ہو رہی تھی۔

تمام لوگ سجدہ تعظیم میں گر گئے۔

صندوق کو فوراً بند کر دیا گیا۔

سکھوں نے نہ صرف انتہائی عقیدت و احترام سے قافلے کو رخصت کیا، بلکہ معذرت کرتے ہوئے قصور تک تابوت کے ہمراہ بھی آئے اور واپس لوٹتے ہوئے خون سے آلودہ روئی کا کچھ حصہ تبرک کے طور پر ساتھ بھی لے گئے۔

قصور میں آپ کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کرائی گئی جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔

❖

جب آپ کی لاش مبارک قصور پہنچی تو ایک افغان حاجی رانجھے خاں آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے آیا۔ اس نے آپ کی پیشانی اور بازو پر انگلی رکھ کر دبانے تو وہ جگہ خون کے ہٹنے سے سفید ہو گئی جس طرح زندہ آدمی کے جسم کے کسی حصے کو دبانے سے وہ جگہ خون کے ہٹ جانے کے سبب سفید ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حاجی صاحب موصوف لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ قرآن و حدیث سے چند مسائل بیان فرمائے اور کہا کہ اس سے قبل میرا یہ عقیدہ تھا کہ اویا اللہ بھی مرنے کے بعد عام

لوگوں کی طرح خاک میں مل کر خاک ہو جاتے ہیں لیکن آج میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور اب میرا ایمان ہے کہ اولیاء اللہ تو مرنے کے بعد بھی اسی حالت میں رہتے ہیں جس حالت میں وہ زندگی میں ہوتے ہیں۔

آپ کے زخموں سے خون رسنے پر جو روئی زخموں پر رکھی گئی تھی وہ بعد میں عقیدتمندوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ آپ کے خاندان میں یہ خون آلودہ روئی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ تصور پہنچ کر آپ کو حکم کے مطابق دوبارہ غسل دیا گیا تھا۔ پہلا کفن عقیدتمندوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا اور پھر دوسرا کفن دیا گیا۔ غسل کے دوران اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ لیٹروں نے آپ کی پنڈلی پر جو زخم لگایا تھا وہ واقعی موجود تھا !



## فضائل !

آپ جامع صفات بزرگ تھے۔ علوم باطنی کا اکتساب اسی دور کے شیخ طریقت حضرت حاجی فتح علی شاہ سے کیا تھا۔ پھر ریاضت اور مجاہدہ میں اس قدر مصروف ہوئے، کہ تھوڑے ہی عرصے میں سلوک کی تمام منزلیں طے کر گئے۔ آپ کو قطبِ وقت کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ باوجودیکہ اس دور میں آمد و رفت اور رسل و رسائل کی سہولتوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر بھی آپ کے مریدین عقیدتمندوں اور شاگردوں کا حلقہ بڑا وسیع تھا۔ قصور اور اس کے مضافات سے لے کر پشاور، ملتان سکھ اور دہلی تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔

احکامِ شریعت کے اس قدر پابند تھے جب پتہ چلا کہ بلھے شاہ اور وارث شاہ نے تحصیلِ علم کے بعد اور ہی رنگ اختیار کر لیا ہے تو فرمایا :

”مجھے دو شاگرد عجیب ملے ہیں، ایک

بلھے شاہ جس نے علم پڑھ کر سارنگی بکڑی

اور دوسرا وارث شاہ جو عالم بننے کے

بعد پھر انجھے کے گیت گانے لگا۔“

لیکن ! جب اصل معاملہ کھلا تو آپ مطمئن ہو گئے !

## درس و تدریس اور معمولات !

نصوٰر اور بعد ازاں پشاور کے قیام کے دوران بھی اپنے درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا۔ چونکہ خود آپ احکام شریعت کی پوری پوری پابندی کرتے تھے اس لیے یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی کہ طلباء یا مریدین میں سے کوئی احکام شریعت کی خلاف ورزی کرے۔

ہر مرید کو نصیحت فرماتے کہ

”احکام شریعت کی پوری پابندی کی جائے“

بات چیت لباس، نشست و برخاست، عرض کہ پوری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ عقیدت مندوں اور مریدین کے علاوہ عام لوگوں کو بھی دین و شریعت کی پابندی کا درس دیتے۔ جمعہ کے روز مسجد میں خود خطبہ دیتے۔

قصود اور نواحی علاقوں سے ایک خلقت آپ کا وعظ سننے کے لیے نماز جمعہ میں شریک ہوتی۔

جب کبھی کسی جگہ کے لیے سفر فرماتے تو راستے میں بھی لوگوں کو پند و نصائح سے مستفیض فرماتے چلے جاتے اور اس طرح دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہتے۔

حلقہ ذکر و فکر بھی ہوتا تھا جس میں مریدین اور عقیدت مند بڑی تعداد میں شریک

ہوتے۔ جو شخص حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتا اسے نماز پنجگانہ اور دوسرے دینی شعائر کی سختی سے پابندی کی تاکید فرماتے۔

بحث مباحثہ اور مناظروں سے بچتے اور اجتناب کرتے تھے کہ اس سے شر پھیلنا ہے اور اختلافات رونما ہوتے ہیں۔

مریدین اور عقیدت مندوں کو اکلِ حلال کی بڑی سختی سے تاکید کرتے اور فرماتے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔

آپ کم گو بھی تھے صرف ضرورت کے مطابق بات کرتے اور فرماتے کہ

”خاموشی سلامتی کا تاج ہے یہ امن پسندی

کی راہ ہے اور زیادہ باتیں کرنا شر پھیلاتا

ہے۔“

جو شخص آپ سے ملنے کے لیے آتا اس کے ساتھ نہایت مروت اور خلوص سے پیش آتے۔ کسی سے تند و تیز اور تلخ گفتگو نہ فرماتے۔ آپ بڑے مہمان نواز بھی تھے اور فرماتے تھے کہ مہمان نوازی صفاتِ پیغمبرانہ میں سے ایک ہے اسے اپنانا چاہئے۔

## کرامات !

متعدد کرامات آپ سے منسوب کی جاتی ہیں جن میں صرف چند ایک کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے :

۱۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر پوچھا آپ

قطبِ وقت ہیں؟ اگر آپ کسی چیز کو طلب کریں تو وہ آپ کے کہنے پر آپ کے پاس حاضر ہو سکتی ہے؟

آپ نے جواب میں فرمایا۔ میاں جب انسان خدا کا بن جاتا ہے تو پوری کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ اور اسے کائنات کی ہر چیز پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔

نو وارد نے پھر پوچھا۔ حضور! وہ کیسے؟

آپ نے فرمایا کہ فرض کرو میں مسجد میں پڑے ہوئے لکڑی کے اس منبر سے کہوں کہ تو میرے پاس چلا آ۔ تو یہ یقیناً میرے پاس خود بخود چلا آئے گا۔

آپ نے تو اس شخص کو محض سمجھانے کی غرض سے یہ ایک مثال دی تھی لیکن اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ منبر واقعی گھسٹتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔

وہ شخص یہ کرامت دیکھ کر صدقِ دل سے اولیاء اللہ کے تصرف کا قائل ہو گیا۔

پھر آپ اس منبر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ بھئی ہم نے تو اس شخص کو سمجھانے کے لیے مثلاً ایسا کہا تھا تو اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔

چنانچہ منبر واپس لوٹ گیا۔

۲۔ آپ کا مزار مبارک حضور کے بڑے قبرستان میں ہے جہاں آپ اپنے خاندان کے دوسرے بزرگوں کے ساتھ آسودہ خاک ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ زبردست بارش ہوئی۔ قبر مبارک میں ایک

سوراج ہو گیا اور یہ پانی سے لبریز ہو گئی۔ خواب میں آپ نے اپنے صاحبزادگان کو اس صورت حال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے درویشوں اور خادموں کو بھیجا کہ قبر کا سوراج بند کر آئیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا۔ تلاش کیا لیکن کہیں سوراج نظر نہ آیا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ انہیں تو وہاں کوئی سوراج نظر نہیں آتا۔

دوسری شب آپ نے خواب میں پھر وہی حکم دیا۔

صبح پھر درویشوں کو بھیجا گیا۔

لیکن وہ پہلے ہی کی طرح مایوس لوٹ آئے کہ وہاں کوئی سوراج نہ تھا۔

تیسری شب آپ پھر خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے بڑی جلالت سے صاحبزادگان سے فرمایا کہ تم خود آ کر کیوں نہیں دیکھتے۔ قبر کے فلاں طرف سوراج موجود ہے۔ اور میں اس وقت نہ ہوں گا۔

چنانچہ !

صاحبزادگان حسب الارشاد صبح قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور دیکھا تو واقعی سوراج موجود تھا اور قبر پانی سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے قبر کو کھلوایا۔ اور یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ جسد مقدس اپنی نشست سے غائب ہے۔ پانی خشک کیا گیا۔ لحد مبارک کو سنوارا گیا۔ اور جب اسے بند کرنے لگے تو دیکھا کہ آپ کا جسد مبارک اپنی جگہ پر بدستور موجود ہے۔

ایک شخص حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا تھا اور اس موضوع پر بحث کرتا کہ حضورِ عوثِ اعظمؓ نے بارہ برس کی ڈوبی ہوئی کشتی برآمد کی، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ آپ اسے دلائل سے سمجھاتے لیکن نہ کوئی دلیل اس کی سمجھ میں آتی اور نہ وہ کسی بات کو مانتا۔

اور پھر ایک مرتبہ یہ شخص بہت عرصہ کے بعد حاضر ہوا، اور حسب عادت اسی مسئلہ پر بحث شروع کر دی۔

آپ نے فرمایا۔ خوب آئے، آج تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ حضورِ عوثِ اعظمؓ ہمارے مہمان ہیں۔ پھر آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہمارے حجرے میں السلام علیکم کہہ کر داخل ہو جاؤ، دوڑاؤ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور حضور سرکارِ بغداد کی زبانی اپنے سوال کا جواب لو۔

وہ شخص اٹھا، وضو کیا اور حجرہ کا دروازہ کھول کر السلام علیکم کہتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضورِ عوثِ اعظمؓ اپنے چند رفقاء کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ اسے دیکھ کر آپ نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب فرمایا کہ اؤ میاں فلاں آگئے کیا تمہیں حافظ صاحب کی زبان پر اعتبار نہ آیا؟

پھر نہایت محبت اور شفقت کریمانہ سے فرمایا کہ  
” عزیز، کشتی کے متعلق جو واقعہ تم نے

سنایا ہے وہ درست ہے۔“

(یہ حجرہ مبارک آج بھی موجود ہے اور حضورِ حجریہ کے نام سے مشہور ہے)

بمقام۔ جامع مسجد قفقور اندرون دست

ایک شخص قبلہ عالم حضرت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کرتا تھا اور ہمیشہ  
آیت کریمہ "کل سیروا فی الارض" کے معنی اور خاص کر فی الارض

پر بحث کیا کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر کس طرح سیر فرما ہوں گے۔ علی الارض  
تو ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر، لیکن فی الارض (زمین کے اندر) یہ کس طرح ممکن ہے۔ آخر  
ایک روز یہ شخص ہمیشہ کی طرح مصروفِ بحث ہوا تو آپ نے مسجد کے محراب کی طرف توجہ کی  
تو محراب شق ہو گیا اور حضور خواجہ عزیز نواز محراب کی دوسری طرف چلے گئے اور پھر  
اسی راستے سے واپس بھی آگئے اور محراب پھر صحیح سالم ہو گیا۔

تب آپ نے فرمایا کہ

"اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کہ حضور  
پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زمین کے  
اندر سیر فرما ہوں گے۔"

اس کے بعد وہ شخص اپنے عقیدے اور بحث سے تائب ہوا۔ اور قرآن مجید کی  
آیت مذکورہ پر صدقِ دل سے ایمان لایا اور پھر کبھی اس پر بحث نہ کی!

ایک دفعہ آپ کے صاحبزادہ حضرت خواجہ غلام مصطفیٰ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے  
طول کھینچا اور زندگی سے مایوسی کے آثار ظاہر ہونے لگے، کوئی دوا کارگر ثابت نہ  
ہوتی تھی، بیٹے کو یوں قریب المرگ دیکھا تو والدہ کا دل تڑپ اٹھا۔ درویشوں سے  
فرمایا کہ جاؤ مجھے شاہ کو لے آؤ۔

ان دنوں حضرت بابا بلیھے شاہؒ پر مجذوبانہ کیفیت طاری تھی۔ حکم پاتے ہی مائی صاحبہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ مائی صاحبہ نے صاحبزادہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا

”دیکھو بلیھے! تمہارے بھائی کا کیا حال

ہو رہا ہے۔ دعا کرو کہ رب العزت اسے

شفا بخشنے!

حضرت بابا بلیھے شاہؒ نے دائیں بائیں دیکھا پھر حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ کی نعل مبارک کا ایک پاؤں نعل میں دبا کر جلدی سے گھر سے باہر نکلے اور قبرستان کا رخ کیا۔ مائی صاحبہ نے دیکھا کہ بلیھے شاہؒ نعل مبارک لے کر بھاگا جا رہا ہے تو پریشان ہوئیں کیونکہ حضرت حافظ خواجہ غلام مرتضیٰ کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا اور آپ کی اجازت کے بغیر بلیھے شاہؒ کو دعا کے لیے بلا یا گیا تھا۔ اور اگر آپ کو معلوم ہوا تو ناراض ہوں گے۔ مائی صاحبہ نے درویشوں کو دوڑایا۔

درویشوں نے دیکھا کہ بابا بلیھے شاہؒ قبرستان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں پھر وہ ایک قبر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ قبر کے اندر جھانک رہے ہیں۔ یہ ایک گنہ گار کی قبر تھی۔ درویش کچھ فاصلے پر چھپ کر دیکھنے لگے۔ حضرت بلیھے شاہؒ کچھ پڑھتے جاتے تھے اور پھر اس نعل مبارک کو اس قبر پر مارنا شروع کیا اور ساتھ ہی ہنستے جاتے تھے۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے تو درویشوں کو دیکھا اور فرمایا کہ جلدی کرو یہ نعل لے جاؤ۔ حافظ صاحب کی آمد کا وقت قریب ہے اور صاحبزادہ صاحب اب بالکل تندرست ہیں۔



درودیش خوشی خوشی گھر پہنچے دیکھا تو صاحبزادہ صاحب صحن میں ٹہل رہے ہیں حالانکہ جاتی دفعہ صاحبزادہ کی حالت ایسی بھی نہ تھی کہ خود اٹھ کر بیٹھ سکیں۔ درودیش معاملہ سمجھ گئے اور نعل مبارک کو اسی جگہ رکھ دیا۔

جب حضرت خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ تشریف لائے تو صاحبزادہ کو رو بہ صحت دیکھ کر متحیر ہوئے لیکن چونکہ روشن ضمیر تھے اس لیے جلد ہی معاملہ کی تہ تک پہنچ گئے مگر اپنی حیرانگی کا اظہار کسی پر نہ ہونے دیا البتہ فرمانے لگے کہ کہیں بلیٹھا تو اس جگہ نہیں آیا؟

سب نے کوشش کی کہ معاملہ اخفا میں ہی رہ جائے لیکن آخر کار ساری صورتحال سے آگاہ کرنا پڑا۔ آپ نے بلیٹھے شاہ صاحب کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ خدا کے کاموں میں یہ دخل اندازی کیوں؟

حضرت بلیٹھے شاہ نے عرض کی۔ یا حضرت میں نے تو اس میں کچھ نہیں کیا۔ آپ کے نعل مبارک کے صدقے میں ایک گناہ گار پر سے عذاب ٹل گیا۔ اس نے صاحبزادہ کی شفا کے لیے دعا کی تھی۔

آپ نے فرمایا لیکن بلیٹھے! آئندہ ایسا مت کرنا۔

یہ نعل مبارک اُنج بھی اس راقم الحروف کے پاس موجود ہے۔

## اولاد !

اُپ کی اولاد کی تعداد کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا۔ چھ یا سات صاحبزادے بتائے جاتے ہیں ان میں سے چھ کے اسمائے گرامی معلوم ہو سکے ہیں جو یہاں درج کیے جاتے ہیں :

- ۱۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۔ حضرت محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۔ حضرت حافظ خواجہ غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- ۴۔ حضرت خواجہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- ۵۔ حضرت داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اور !

- ۶۔ حضرت اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ

## حضرت خواجہ حافظ غلام مصطفیٰ

حضرت خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ کے واصلِ حق ہو جانے کے بعد مسندِ خلافت حضرت خواجہ حافظ غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی۔ آپ اپنے والدِ باکمال کی طرح حافظِ قرآن، عالمِ بے بدل، جیدِ فقیہ، محدث اور صاحبِ حال و قال بزرگ تھے آپ نے تمام علوم متداولہ جن میں علمِ فلسفہ، منطق، صرف و نحو، شعر و ادب، اسماء الرجال فقہ، حدیث، قرأت و تجوید اور خطابت وغیرہ شامل ہیں، حاصل کیے۔

حضرت خواجہ غلام مصطفیٰ کا دور وہ دور ہے جب کہ دولتِ مغلیہ کا چراغ محض ٹمٹما رہا تھا۔ انتشار اور طوائف الملوکی کی بدولت کسی کو سکون میسر نہ تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔

غرضیکہ !

مخلوقِ خدا پر خدا کی زمین تنگ ہو رہی تھی۔ جاٹوں، مرہٹوں اور سکھوں کی اندھیر گردی کے علاوہ پنجاب پر انگریزوں کی نظریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اسی دور میں سکھ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اور اس کے لیے متحارب قوتوں کی پینچہ آزمائی پنجاب ہی کے میدانوں میں عمل میں آئی۔

قیاس کہتا ہے کہ

ان حالات میں کسے فرصت ہوگی کہ وہ حضرت خواجہ کے کوائف و

حالات جمع کرتا بلکہ ان پر نشان کن حالات اور برداشتی میں تو کئی علمی و ادبی خزانے ایسے ضائع ہوئے کہ ان کا نشان تک بھی باقی نہ رہا۔

یہی وجہ ہے کہ

حضرت خواجہ غلام مصطفیٰ کے حالات نہ تو اس دور کے تذکروں میں ملتے ہیں اور

نہ ہی خاندانی طور پر اس بندہ کے پاس صدی یادداشتیں اور دیگر تحریری مواد موجود ہے جس سے کہ آپ کے حالات پر کچھ روشنی ڈالی جاسکے۔

چونکہ اب اصل منزل قریب ہے اور کتاب ہذا کے اصل مدعا کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس لیے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔

اس سے قبل اپنے جن بزرگان کے حالات احاطہ تحریر میں لا چکا ہوں، وہ بھی محض اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و امداد کے شامل حال ہونے کا نتیجہ ہے۔

اور اب !

اپنے جس بزرگ اور جہدِ امجد کے حالات و سوانح مبارک پر قلم اٹھانے کی جرات کر رہا ہوں وہ کتاب ہذا کا اصل موضوع ہیں۔ اور شاید اللہ تعالیٰ ہی کو یہ منظور تھا کہ ان کی بدولت خاندان کے دوسرے بزرگوں کے مختصر سے حالات بھی کتابی شکل میں یک جا ہو گئے ہیں۔

ورنہ !

صدیاں بیت گئیں یہ حالات منتشر و راق  
صدی یادداشتوں، مختلف قلمی نسخوں،  
اور کتب و رسائل میں اس طرح بکھرے

## حضرت خواجہ

# غلام محی الدین قصوری دائم القصری

ولایت و تصوف کا یہ آفتاب عالم تاب ۱۲۰۲ ہجری کو طلوع ہوا۔  
آپ کی پیدائش بھی قصور میں ہوئی۔

آپ کی عمر بھی مشکل ایک سال کی ہوئی تھی کہ والد محترم حضرت خواجہ غلام مصطفیٰ اس  
عالم فانی سے عالم جاودانی کو سدھارے اور اس طرح آغوشِ مادر ہی میں آپ کو داغِ نبی سے  
ہمکنار ہوتا پڑا۔ آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے عم بزرگوار حضرت مولانا خواجہ شیخ محمد  
قصوری نے اٹھایا۔

پڑے تھے جس طرح کہ موتیوں کا ہار ٹوٹ  
جائے اور موتی ادھر ادھر بکھر جائیں۔

اس منتشر دفترِ پارینہ کی شیرازہ بندی کی سعادت اس فقیر کے حصے میں آئی ہے۔  
میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے نصرت و امداد طلب کرتا ہوں۔

آپ کی صرف ایک اولادِ زینہ تھی جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت خواجہ حافظ  
غلام محی الدین ہے۔ یہ وہی ذاتِ گرامی ہے جن کے حالات و سوانح لکھنے کے لیے  
میں نے نصرتِ خداوندی کے شامل حال ہونے کی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ کتاب بھی  
انہی کے اسم مبارک یعنی "انوارِ محی الدین" سے منسوب کی گئی ہے  
اور !

اب کتاب کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے مرتب و مدون کرنے کی آرزو کو  
ایک مدت کے بعد عملی جامہ پہنارہا ہوں !

## دہلی کا سفر !

چونکہ اس دور میں سفر اور سیاحت کے بغیر تحصیلِ علم میں کسی کا کمال تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا اور پھر بزرگانِ دین اور مشائخِ عظام تو اپنے سے بلند رتبہ ادیبانے وقت کی تلاش میں دور دراز کا سفر اختیار کیا کرتے تھے تاکہ مظاہرِ فطرت کا مشاہدہ کر کے ایمانِ بائد کو اور مضبوط بنائیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس غرض سے اوائلِ شباب میں بریلی کا سفر کیا۔ وہاں آپ کے خاندان کے کچھ افراد بھی رہتے تھے۔ آپ اپنے ان بزرگوں سے ملاقی ہوئے اور پھر سیر و سیاحت کا شوق انہیں دہلی لے گیا۔

دہلی میں حضرت قطبِ زماں خواجہ عبداللہ شاہ غلام علی نقشبندی مجددی مظہری، دہلوی کی خدمتِ اقدس میں بھی حاضر ہوئے۔ وہ صاحبِ نظر اور صاحبِ حال بزرگ اس جوہرِ قابل کو فوراً پہچان گئے چنانچہ آپ سے انتہائی محبتِ خلوص اور عنایت کا مظاہرہ کیا۔

چونکہ وہ قیومِ زماں حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں دہلوی کے خلیفہ تھے اور سلسلہ مجددیہ سے منسلک تھے اس لیے انہوں نے آپ کو اشارۃً کنایۃً اس سلسلے سے منسلک ہونے کی ترغیب دی بلکہ چونکہ ابھی تک آپ کے علمِ محترم حضرت خواجہ شیخ محمد قصوری بقیدِ حیات تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کرنے کے علاوہ سلسلہ قادریہ میں ان سے خلافت بھی حاصل کی تھی اس لیے ان کی زندگی میں کسی دوسرے سلسلے سے منسلک ہونا بہتر نہ جاتا، اور خاموش رہے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ سکوت اختیار کیا جاتا۔ چنانچہ آپ اس

## ابتدائی تعلیم !

اس دہائی میں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری عم بزرگوار کے کندھوں پر تھی جب طفولیت کی منزلوں سے گزر کر سن شعور کو پہنچے تو عم محترم نے تعلیم کا انتظام کیا۔ حضرت خواجہ شیخ محمد قصوری خود وقت کے صاحب علم اور صاحب دل بزرگ تھے۔ انہیں علوم متداولہ پر پورا عبور حاصل تھا۔ اس لیے انہوں نے یتیم ہتھیے کی تعلیم و تربیت کا بھی خود اہتمام کیا اور یہ بیڑا بھی خود اٹھایا۔ آپ نے ان سے معقول و منقول کی تمام کتابیں پڑھیں اس کے علاوہ صرف و نحو، قواعد فلسفہ منطق، اسماء الرجال، حدیث، شرح اور فقہ کی تعلیم بھی انہی سے حاصل کی۔

اگرچہ !

ان علوم میں کمال حاصل کرنے کے لیے انہیں دور دراز کے سفر بھی اختیار کرنا پڑے اور کئی دوسرے اساتذہ وقت کے سامنے زانوئے تلمذ بھی طے کیا۔

عم محترم کو تصوف کے سلسلوں میں سلسلہ قادریہ کی خلافت حاصل تھی جب علوم ظاہری سے فراغت پانے کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے تو سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کے مطابق سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد اپنے عم محترم سے ہی سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی حاصل کی۔



بعد از انتقال نمودن عمّ حجّ با وجود این همه  
 محاصل همه را گذاشته بخدمت عالی جناب  
 قطب الاقطاب حضرت شاه صاحب قبلہ  
 غلام علی دہلوی قدس سرہ بجهت تحصیل نسبت  
 مجددیہ حاضر خدمت گردید۔ چنانچہ حضرت  
 شاه صاحب قبلہ بہ تعظیم و تکریم حضرت ایشان  
 نمودند و حضرت ایشان نمودند کہ من بجهت  
 استفادہ برائے کفّش برداری حاضر خدمت  
 جناب شدہ ام تا جناب شاه صاحب قبلہ  
 بہ نہایت خوشی دل قبول نمودند ایشان را۔  
 و رخدمت شاه صاحب قبلہ یازدہ ماہ در  
 خدمت با برکت ماند از آنجناب ایشان  
 را اجازت خلافت در سلاسل ثلاثہ چنانچہ  
 در سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ قادریہ و  
 چشتیہ مجاز کلی فرمودند و ضمنی نیز کردند  
 کلمات در مدح و ثنا اکثر در حق ایشان  
 شاه صاحب مے فرمودند۔

درویشِ خدا دوست کی محفل کا رنگ دیکھتے رہے اور پھر کچھ دنوں بعد واپس قصود  
تشریف لے آئے۔

## بیعتِ مجددیہ !

جب آپ کے عمِّ محترم کا انتقال ہو گیا تو سلسلہ مجددیہ میں حصولِ فیض کی غرض  
سے حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتِ اقدس میں دوبارہ حاضر  
ہوئے۔ اس واقعہ کو اپنی تصنیف ملفوظات شریفہ جہل روزہ المعروف چہل مجالس  
میں یوں بیان فرماتے ہیں :

”جس روز یہ احقر طریقہ عالیہ مجددیہ کی بیعت کے ارادے

سے حضور کی محفل مبارک میں حاضر ہوا تو آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے  
اور فرمایا کہ

”امروز امرے عظیم ظہور مے کند کہ فاضلے

از ما اخذ طریقہ مے نماید“

ترجمہ: ”آج امرِ عظیم یعنی ایک بہت بڑا کام ظاہر

ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ ایک عالم فاضل شخص

ہم سے فیضِ طریقت حاصل کر رہا ہے !“

اچھے خلیفہ حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب بیربل والانے آپ کے سفرِ دہلی کے بارے  
میں لکھا ہے کہ

ترجمہ : " اپنے عم محترم کی وفات کے بعد آپ پھر وہی تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار دی کہ کفش برداری کی خدمت حاصل کرنا چاہتا ہوں ، حضرت شاہ صاحب آپ کے ساتھ انتہائی عودت و تکریم سے پیش آئے ، اس سے قبل آپ پہلی مرتبہ گیارہ ماہ تک شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر رہے تھے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے آپ کو صوفیا کے تین سلسلوں یعنی نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ اور چشتیہ میں خلافت کی مکمل اجازت دی تھی اور آپ کی بے حد تعریف بھی کی تھی۔ "

آپ خود حضرت قبلہ شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں حاضری کے متعلق اپنے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ

" آپ نے میرے دونوں ہاتھ اپنے بابرکت ہاتھوں میں لیے اور بارگاہِ خداوندی میں نہایت عجز و انکسار سے عرض کیا کہ

" الہی !  
 ہر فیض کہ حضرت عوث الاعظمؓ از ابائے  
 کرام خود ارثاً و از مرشدانِ دیگر عطاء  
 و دیگر فیض کہ از کسبِ خود حاصل نموده اند  
 بجلدی تمام نصیب ایشان فرما !

ترجمہ : " اے باری تعالیٰ !

ہر ایک فیض جو حضرت عوث الاعظمؓ نے اپنے باپ و ادا

سے ورثہ میں اور دوسرے بزرگوں اور مرشدوں سے بطور عطا اور جتنے  
فیض اپنی محنت اور کمال سے حاصل کیے وہ سب کے سب جلدی ان  
کو نصیب فرما۔

پھر فرماتے ہیں کہ یہ دعا فرمانے کے بعد آپ نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ  
میں پکڑ کر ہوا میں لہرایا اور فرمانے لگے :

” دستِ شمارا در دستِ حضرت غوثِ الاعظمؒ

داویم در ہر کار و بنی و دنیوی ممد و معاون

شما باشند۔“

ترجمہ : ” ہم نے تمہارا ہاتھ حضرت غوثِ الاعظمؒ کے ہاتھ میں

دیا۔ اب حضرت غوثِ الاعظمؒ رحمت اللہ علیہ ہر دینی و دنیوی

کام میں آپ کے مددگار اور معاون ہوں گے۔“

حضرت قبلہ شاہ غلام علی صاحبؒ کی خدمت میں آپ نے جس تیزی کے ساتھ  
سلوک و معرفت کی منزلیں طے کیں۔ اس کی ایک مثال آپ نے اپنے ملفوظات میں  
لکھی ہے۔ فرماتے ہیں :

” حضرت قبلہ شاہ غلام علی صاحبؒ نے ایک مرتبہ مفتی شہر

کی موجودگی میں میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تین چار ماہ ہوئے یہ

مولوی صاحب فقور سے آئے ہیں۔ اس قلیل عرصہ میں انہوں نے جو

کمال حاصل کیا ہے مفتی صاحب ! وہ آپ چھ سال میں بھی حاصل نہیں

کر سکتے۔ یہ ہمارے بڑھاپے کی محنت ہے۔“

حضرت قبلہ شاہ غلام علی دہلویؒ اپنے ایک مرید حضرت مولانا خالد رومی کو حضرت  
قبلہ خواجہ قصوریؒ کے متعلق لکھتے ہیں کہ :

” مولانا غلام محی الدین نے مجھ سے تعلیم حاصل

کی اور کثادگی ان کی نسبت باطن میں پیدا

ہوئی۔ تمام انعاماتِ الہی سبحانہ سے ایک

یہ کہ مولوی مسطور قصور سے بندہ لاشعے کے

پاس آیا۔ چند ماہ میں نسبت احمدیہ کو پہنچا

اور با اجازت خلافت ممتاز کو پہنچا۔“

شاہ صاحب اکثر آپ کی مدح و ثنا کرتے تھے۔ اپنے مریدوں میں سے جو علاقہ

پنجاب لاہور، ملتان اور پٹیالہ سے تعلق رکھتے تھے انہیں حضرت خواجہ قصوریؒ کے سپرد

فرمایا۔ خواجہ قصوریؒ نے قبلہ شاہ صاحب کے ملفوظات چہل روزہ تحریر فرمائے۔ ان میں

عجیب و غریب نقاط بیان فرمائے ہیں۔ ان ملفوظات شریفہ کی مثل کوئی کتاب سلوک

مجدویہ کی دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ غلام نبی اللہیؒ

نے ان ملفوظات کے متفرق اوراق کو جمع کیا۔

حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ نے اپنی کتاب مقاماتِ مطہریہ خورو کے انجمن میں جہاں انہوں نے

اپنے خلفا کا ذکر کیا ہے، حضرت قبلہ قصوریؒ کے متعلق ان الفاظ میں اظہارِ خیال فرمایا

”جامع کمالات علوم ظاہر و باطن حضرت  
 مولوی غلام محی الدین صاحب تلمیذ نے بہت  
 فائدہ حاصل کیا۔ بلکہ قصور کے نزدیک سے  
 اور عنایتِ الہی سبحانہ سے نسبتِ احمدیہ  
 کو پہنچے، نہ صرف اجازت بلکہ خلافت پائی  
 نوالحمد للہ سبحانہ عم نوالہ اللہ تعالیٰ  
 اپنے فضیل عام کے ساتھ ان کو اپنی محبت  
 اور معرفت کے چراغِ طلب کے ساتھ  
 امام مستفید فرمائے۔“

ایک روز قطب العالم حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلویؒ کی محفل میں حضرت خان  
 نجیب الدین خاں قصوری شرف قدمبوسی کو حاضر ہوئے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے  
 اور خوشی کے عالم میں فرمایا کہ

”غلام محی الدین را پیر کد ام مکان کنیم؟“

”غلام محی الدین کو کس جگہ کا پیر بنایا جائے؟“

خان صاحب نے یہ سن کر عرض کیا۔

”پیر قصور!“

کہ انہیں قصور کا پیر بنا دیجئے۔

اس پر حضرت خواجہ شاہ غلام علیؒ خوش میں آگئے اور فرمایا۔

”عجب قاصر ہمت، ہستی اور اپر تمام پنجاب خواہم کرو۔“  
 ”تم بہت کم ہمت ہو۔ ہم انہیں سارے پنجاب کا پر بنائیں گے۔“  
 ایک دن حضرت خواجہ قصوریؒ پر گریہ طاری ہوا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کو بھی اس  
 کی خبر ہو گئی۔ جب آپ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔  
 ”دوسری تکلیفوں میں رونا ایک دن کا ہوتا ہے لیکن فقیری میں ہمیشہ کا رونا  
 ہے اور یہ رونا کبھی ختم نہیں ہوتا۔“  
 ملفوظاتِ جہیل مجالس میں فرماتے ہیں کہ

”مولوی صاحب! مولویت را بگذر و آہ بیاموزید!“  
 ”مولوی صاحب! مولویت کو چھوڑو، اور آہ و بکاری  
 سیکھو!“ (صوفیا کے نزدیک اس سے خشوعِ قلب کی دولت  
 مسیر آتی ہے۔)

خواجہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں آہ کا چاند چمک اٹھا۔ میں نے  
 بارگاہِ ایزدی میں دعا کی کہ یا اللہ اس میں کمی نہ کرنا بلکہ اس میں زیادتی فرمانا۔ اور اس وقت  
 آہ کی تعریف میں یہ دو شعر زبان سے نکل گئے۔

مدے کہ طرفہ بر سر آدم کشیدہ اند  
 آن مد آہ دان کہ پیش آفریدہ اند  
 مد آہ گم ہوئے بر سر آدم پدید،  
 او آدم بودے کہ یعنی چرم گاؤ گو سفند

ترجمہ : " وہ عجیب مد جو کہ لفظ " آدم " کے سر پہ کھینچی گئی ہے اس کو  
 " آہ " کی مد سمجھنا چاہئے جسے پہلے پیدا کیا جا چکا ہے اگر یہ  
 آہ کی مد آدم کے سر پہ ظاہر نہ ہوتی تو یہ لفظ " آدم " ہوتا۔ اور اس کے  
 معنی ہیں بکری اور گائے کا چمڑا۔ "

ملفوظات چہل مجالس میں حضرت خواجہ قصوریؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ  
 " ماہ رمضان المبارک کی چودہ تاریخ تھی۔ گرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ فقیر  
 اپنی حکمتِ عملی سے پانی ٹھنڈا کر کے افطاری کے لیے حضورؐ کے پاس لے گیا۔ جب حضورؐ  
 نے دُور سے دیکھا تو مسکرا کر فرمایا

" بگو مجنوں! چہ اُردوی برائے تحفہ لیلیٰ؟ "

حضرت خواجہ قصوریؒ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر فقیر نے دل میں جو ایسا عرض کیا :

" دل صد پارہ آوروم اگر باشد بدال میلے! "

جب وہ ٹھنڈا پانی حضورؐ کے سامنے رکھا تو کمالِ رضا مندی اور خوشی سے دعا فرمائی

" بَرَدِ اللّٰہِ قَلْبِکَ بِمَرَدِ مَعْرِفَتِہِ "

" اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو معرفت کی ٹھنڈک سے ٹھنڈا کرے! "

نوٹ : لفظ مجنوں کے تحت حضرت خواجہ قصوریؒ و ائمہ المحضوری نے

ملفوظات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ  
 علیہ وسلم فرماتے ہیں

" لا یومن احدکم حتی یقال

انہ مجنون۔ "



یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو  
 سکتا جب تک کہ اس کے متعلق یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تحقیق وہ مجنوں ہے۔  
 پھر حضرت خواجہ صاحب تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ نے اس  
 غریب الدیار پریشاں حال کے متعلق لفظ "مجنوں" استعمال فرمایا تو گویا کمال ایمان  
 کی بشارت دی ہے۔

اللہ اللہ، قلب و نظر کی پیرسانی بھلا ہر ایک کو کہاں میسر آتی ہے۔ اور  
 ایک عام انسان کا ذہن کب اس طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار شخص ہوتا  
 تو بس یہ سمجھ لیتا کہ آپ نے لفظ "مجنوں" ازراہ محبت یا شوخی طبع کے لیے ہی  
 ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن حق بین نگاہوں اور صحیح اور صالح قوت فکر کے چشمے نے  
 کس طرح حقیقت کی بلندیوں کی طرف راہنمائی کی۔  
 حضرت خواجہ قصوری فرماتے ہیں :

" بریں مژدہ گر جاں فشاںم رواست

کہ این مژدہ آسائش جانِ ماست

یعنی اگر میں اس خوش خبری پر جان بھی قربان کر دوں تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ

بشارت میری جان کی آسائش و آرام ہے۔

ایک دن عصر کے حلقے میں حضرت خواجہ قصوری حاضر تھے۔ محمد حسن چشتی صاحب بھی  
 جو کہ حضور خواجہ شاہ صاحب دہلوی کی بارگاہ عالیہ میں بے حد مقبول تھے حلقے میں حاضر  
 تھے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حضرت خواجہ قصوری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ محمد حسن  
 اپنی زبان حال سے تمہیں کہتا ہے۔

نالہ زمن بود کہ بلبیل زود برود

یک نفس داشتندی داشت دلم گل زود برود

ترجمہ : " مجھ سے نالہ و بکا شروع ہوا تھا کہ بلبیل جلدی سے لے گیا۔ دل کی کلی کھلنے میں ایک گھڑی باقی تھی کہ اسے جلدی سے پھول نے چرایا۔  
یہ سن کر حضرت خواجہ قصوری نے بھی زبانِ حال سے حضور اقدس کی خدمت میں عرض کیا ہے

نیا و روم از خانہ چیزے تخت

تو وادی ہمہ چیز من چیزتست

ترجمہ : " میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہوں یہ تو سب آپ نے ہی دی ہیں۔ میری تمام چیزیں آپ ہی کی ہیں۔"

## خلافت و اجازت !

ایک دن حضرت خواجہ شاہ غلام علی صاحب دہلویؒ محفل میں اجازت اور خلافت کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے آپ نے حضرت خواجہ فقہوریؒ وائمہ المحسنوری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ

” ہم بہت جلد تجھے اجازت دیں گے اور

اُزمانش کے لیے اپنے سامنے توجہ لائیں گے۔“

توجہ دینا صوفیائے کرام کی اصطلاح ہے جس میں مرشد اپنے مرید کے قلب و نظر کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنی روحانی قوت کے تصرف سے اس پر ایک خاص کیفیت طاری کرتا ہے جس سے مرید کے دل کی دنیا روشن ہوتی ہے اور لطائف کھلتے ہیں۔

شعبان المعظم کی ۲۷ تاریخ تھی اور چہار شنبہ کا روز تھا کہ حضرت قبلہ عالم شاہ صاحب  
 دہلوی نے طریقہ القاء اور حلقہ کی اجازت بخشی۔ قبلہ شاہ صاحب نے حضرت مولانا  
 محمد عظیم صاحب اور حضرت صاحبزادہ رؤف احمد صاحب کو لپور گواہ طلب فرمایا اور  
 حضرت خواجہ پیر قصوری و ام المصنوری کو اپنے قریب بٹھایا اور پھر فرمانے لگے کہ  
 آج آپ کو ہم چھ سلسلوں یعنی قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، مجددیہ اور  
 کبرویہ میں بیعت و خلافت کی اجازت دیتے ہیں۔  
 پھر نصیحت فرمائی کہ

جو فیض کا طالب ہو اور اپنی تشنگی کا اظہار کرے اس کے دل میں الفا کرتے  
 رہنا۔

پھر القاء کا طریقہ بھی فرمایا۔

پھر اپنی کلاہ مبارک اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پر رکھی۔ دیر تک اپنا ماتھ  
 حضرت خواجہ قصوری کے سر پر رکھے رہے۔  
 کچھ دیر بعد فرمایا کہ

”اُو ! ان چھ سلسلوں کا فیض بھی علیحدہ علیحدہ  
 تمہارے سینے میں الفا کر دوں۔“

جب آپ توجہ سے القاء فیض کو ودیعت کر چکے تو حضرت خواجہ قصوری  
 و ام المصنوری اٹھے، آداب و نیاز بجالائے تشکر و امتنان کے احساسات جذبات  
 پھیلے پڑتے تھے انہیں قابو میں نہ رکھ سکے، بے اختیار آپ کے قدموں میں گر پڑے

اور دیر تک اپنا سر حضرت کے قدموں پر رکھے گزیر کناں رہے اور عرض کرتے جاتے تھے کہ

من سب گزین لائق این تشریف شاہی

نہ بودم محض بہ عنایت کرم و فضل منودہ اند!

حضرت قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کلاہ مبارک میری اپنی نہیں بلکہ کئی پشتوں سے ہمارے پاس چلی آرہی ہے۔ یہ پیرانِ کبار کی ہے۔

پھر فرمایا کہ خرقہ خلافت، ۲۷ رمضان المبارک کو بخشا جائے گا۔

اس لیے کہ یہ دن اپنے تقدس و عظمت کے اعتبار سے لاثانی ہے اسی روز قرآن پاک

نازل ہونا شروع ہوا تھا۔

آخر وہ مبارک ساعت بھی اُن پہنچی جس کی خاطر حضرت نجم القسوری ہزاروں میل کا سفر طے کر کے

ایک عرصہ تک پیر با صفا کی خدمت میں مصروف تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پیر کامل

نے اس گوہرِ ابدار کے جوہر کو پوری طرح چمکا دیا تھا۔ اللہ اللہ وہ درّ یتیم جو بالکل بچپن

میں ہی والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گیا تھا اور جس کو عم محترم نے پرورش کیا

تھا آج سلوک کی انتہائی منزلیں طے کر چکا تھا۔ حق تعالیٰ نے اسے وہ سعادت بخشی تھی

کہ پیر بھی ایسے شاگرد پر فخر و تاز کرتے تھے۔

ملفوظات چہل روزہ !

چنانچہ !

جب ۲۷ رمضان المبارک کا دن آیا تو نمازِ مغرب کے بعد اس گوہرِ شناس نے

کہ زمانہ جسے شاہ غلام علی صاحبؒ کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کرتا ہے حضرت خواجہ قصوریؒ کو طلب فرمایا اور خرقہ خلافت اور کلاہ پہلے خود پہنا اور اپنے جسم مبارک سے اسے برکت و فضیلت بخشی۔ پھر مرید با صفا پر توجہ فرمائی اور اپنے دست مبارک سے خرقہ پہنانے لگے۔

حضرت محمد عظیمؒ اور حضرت صاحبزادہ رونا احمد صاحبؒ فرمایا کہ تم بھی خرقہ پہنانے میں مدد دو کہ پیرانِ عظام کی یہ بھی سنت ہے چنانچہ وہ اُگے بڑھے اور خرقہ پہنانے میں تعاون کرنے لگے۔ پھر اپنے دست مبارک سے کلاہ شریف آپ کے سر پر رکھی اور القا و حلقہ کی اجازت کی تجدید فرمائی اور کہا کہ

”ہماری طرف سے تمہیں کلی اجازت ہے کہ  
جو کوئی طلبِ فیض کے لیے آئے ہماری  
طرف سے فیض و اذکار کا القا کرنا!  
اللہ تعالیٰ پیرانِ کبار اور مشائخِ عظام  
کے صدقے تاثیر اور ثمرات بخشے گا۔“



عید الاضحیٰ کا روز تھا۔

حضرت شاہ غلام علی صاحبؒ نمازِ عید کے لیے عید گاہ میں تشریف لے گئے۔ نماز ادا ہو چکی تو عقیدت مندوں نے ہجوم کیا اور قد مبوسی کے لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔

حضرت خواجہ قصوری بھی قد مبوسی کے لیے حاضر ہوئے لیکن خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ مجبوراً اس انتظار میں کہ یہ عقیدت مند فارغ ہو لیں تو پھر قد مبوسی کا شرف حاصل کریں گے۔

چنانچہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔

اتنے میں شاہ صاحب نے یاد فرمایا۔ اواز آئی

”مولوی قصوری کجاست بیاید؟“

یہ اواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ آپ فوراً اٹھے اور جا کر قد مبوس ہو گئے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے آپ کا سراٹھا کر سینہ مبارک سے لگا لیا۔ اور اس قدر توجہ فرمائی کہ آپ کے دل میں ایک منفرد جوش و حرارت بھروی۔ پھر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت خواجہ قصوری پھر اپنی جگہ پر تشریف لے آئے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب اپنے پیر طریقت حضرت خواجہ قسیم زماں مرزا مظہر جان جاناں شہید دہلوی کے مزار اقدس پر تشریف لے گئے اور قدم گاہ کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں، رخساروں اور دل پر ملی پھر بائیں جانب بیٹھ گئے اور فرمانے لگے :

”یا حضرت! نہایت ضعیف ہو گیا ہوں، اب تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ساری عمر مجھے خوش رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل خاتمہ بخیر کر دے!“

اسی جگہ شاہ صاحب قبلہ نے حضرت خواجہ قصوریؒ کو پھر یاد فرمایا اور آپ کا ہاتھ  
 دیر تک ہوا میں لہراتے رہے۔ پھر آپ کو حضرت مرزا منظر جان جاناں شہیدؒ کے سپرد کیا اور  
 لصدادب و احترام انتہائی دلگداز لہجے میں فرمایا :  
 ”یا حضرت !

یہ غریب الدیار آپ کے گھر آیا ہے اس کے حق میں اپنی  
 تمام تر عنایات فرمائیں۔“

پھر سہارا لے کر اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔

حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلویؒ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ حضرت  
 عنوت الاعظمؒ، حضرت معاویہؓ را خلیفہ پنجم نوشتہ اند، ما غلام محی الدین را  
 خلیفہ پنجم خود گردانیدیم۔

القصد حضرت شاہ صاحبؒ آپ پر بے حد مہربان تھے اور ہر طرح کی نظر عنایت  
 فرماتے تھے۔ مرشدِ کامل کی نظر عنایت ہی کا نتیجہ تھا کہ آٹھ نومبر کے اندر اندر آپ نے  
 سلوک کی وہ تمام منازل طے کر لیں جو دوسرے سالہا سال کی محنت ثباتہ اور ریاضت کے  
 بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ پھر آپ کو خلافت بخشی اور رخصت فرمایا۔

حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ نے آپ کو بیعت و خلافت کی جو اجازت دی تھی  
 اس اجازت نامے کی نقل حسب ذیل ہے۔



”مولانا مولوی غلام محی الدین قریشی قصوری زرقہ دوام الحضور نزدایی  
 فقیر رسیدہ بہرہ یاب کمالاتِ صوری و معنوی گردیدہ و حقیقتِ مسعے  
 الباطن و کمالاتِ نبوتِ حقیقتِ موسوی و احمدی و حقیقتِ قرآنی را  
 بدرجہ یافتہ۔ وست ایشان دستِ من مقبول ایشان مقبولِ من  
 ایشان را پیرِ قصورِ کریم ایشان را پیرِ لاسورِ کریم ایشان را  
 پیرِ پنجابِ کریم۔“

علمِ حدیث میں آپ کو شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان سے شرفِ تلمذ حاصل تھا۔ دہلی  
 میں رہ کر آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علمِ حدیث پڑھا  
 اور اس میں وہ مقام حاصل کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز نے آپ کو علمِ حدیث پڑھانے  
 کی باقاعدہ اجازت اور سند دی تھی !

تحفہ دستگیر یہ میں اس کی نقل ان الفاظ میں موجود ہے :

”بسم اللہ الرحمن الرحیم ۛ

الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام

علی رسولہ محمد شفیح المذنبین و علی آلہ

و اصحابہ الہادین اما بعد میگوید فقیر عبد العزیز

دہلوی عفی اللہ عنہ کہ مولوی غلام محی الدین

صاحب را اجازت خواندن و تعلیمِ حدیث

رسول رب العالمین بشرطِ مراجعتِ بظرف

شروح و تراجم کتب حدیث وقت تدریس  
 و ادم و نیز اجازت تفاسیر کلام مجید و ادم  
 و سند کتاب حدیث کہ اسح کتب حدیث  
 صحیح بخاریست نوشتہ و ادم سندہ  
 لکذا ..... الخ

## دہلی سے واپسی

### سیاسی حالات !

یہ وہ دور تھا جب کہ دولتِ مغلیہ دم توڑ رہی تھی۔ ہر طرف انتشار و افتراق کا دور دورہ تھا۔ سلطنتِ دہلی کا اقتدار برائے نام تھا۔ اصل طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں چکی تھی۔ ماسوائے پنجاب کے باقی سارے ملک پر عملاً انگریزوں کی عملداری تھی۔ دکن میں مرہٹوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اگرچہ احمد شاہ ابدالی کے حملے نے ان کی طاقت کے بجائے ادھیڑ کو رکھ دیئے تھے لیکن وہ گروہوں میں بٹ کر لوٹ مار قتل و غارت میں مصروف تھے

اور دوبارہ اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔

وسط ہند اور شمالی ہند میں ہندو جاٹوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں اور سب سے بدتر حالت پنجاب کی تھی۔ اگرچہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور کئی صدیوں تک مسلمانوں نے یہاں حکومت بھی کی تھی لیکن اب سکھ گردی نے پنجاب میں وہ تباہی مچائی تھی کہ الحفیظ والامان۔

پنجاب میں مسلمانوں کا اقتدار سکھوں ہی کے ہاتھوں سے ختم ہوا۔ نادر شاہ نے جب دہلی پر حملہ کیا تو واپسی پر اس کی فوج نے پنجاب کو بھی نشانہ بنایا۔ نادر شاہ کا حملہ عذابِ الہی سے کم نہ تھا، اور اس نے مسلمانوں کی رہی سہی ساکھ کا جنازہ نکال دیا۔ سکھوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور رنجیت سنگھ نے اُہستہ اُہستہ پنجاب کے اضلاع میں اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ پنجاب کا حاکم بن بیٹھا۔

یہ وہ دور تھا جسے مسلمانوں کی ابتلا و آزمائش کا بدترین دور کہا جاسکتا ہے۔ اس پر آشوب دور میں کلمہ حق بلند کرنے اور دینِ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے فریضہ کی انجام دہی کا کام بڑے ہی دل گروے کی بات تھی۔ کیونکہ سکھوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے اور جس طرح مسلمانوں کو تہ تیغ کیا اس کے پیش نظر کسی کو یہ جرات نہ ہوتی تھی کہ وہ زبان بھی کھول سکے۔

یہ وہ حالات تھے جن کی موجودگی میں آپ کو واپس قصور اُگر اپنا فرض ادا کرنا تھا چنانچہ دہلی سے قصور کے لیے رختِ سفر باندھا اور اپنے آبا و اجداد کی سرزمین میں لوٹ آئے۔ یہاں پہنچ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو رشد و ہدایت

آپ کا شیوہ تھا اور یہی اوصاف تھے جن کی بدولت آپ اس انتہائی مایوس کن دور میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

## سیر و سفر اور تبلیغ دین !

آپ کے مرشد نے آپ کو سیر و سفر کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خود لوگوں کے پاس پہنچا جائے۔ اگرچہ لوگ مور و بلخ کی طرح تصور کا رخ کرتے اور فیض یا پتے تھے لیکن تبلیغ اسلام کا فریضہ سفر کا تقاضا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کا طریقہ تھا کہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ گھر میں قیام فرماتے اور سال کے باقی گیارہ ماہ سفر میں رہتے۔ اور لوگوں کو رشد و ہدایت کا درس دیتے۔ اور ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کا یورا مہینہ بھی مٹھ لوانہ میں ہی گزار گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خاں ڈیرہ غازی خاں۔ چوہڑکانہ۔ میانی شاہ پور۔ پاک پتن شریف اور لاہور اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ بریلی اور وہلی کا سفر حصولِ تعلیم کے لیے کیا تھا۔ اس کے علاوہ گجرات ملتان اور برصغیر کے متعدد شہروں کا سفر بھی آپ نے کیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ غلام علی دہلوی کا ارشاد تھا کہ

”سفر کرتے رہنا۔“

آپ نے اس ارشاد کے پیش نظر بھی سفر کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔

یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ ایسی بدامنی کے دور میں جب کہ ہر سستی قتل گاہ بن رہی تھی۔ گیارہ ماہ سفر میں رہنا کس قدر خطرناک ہو سکتا تھا لیکن آپ اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ ذرائع مواصلات کی وہ آسانیاں فراہم نہ

تھیں جو بعد میں میسر آئیں۔ اس کے باوجود آپ نے دورِ دراز کا سفر بھی کیا۔ جہاں جاتے راستے میں خلقِ خدا کو رشد و ہدایت کا درس دیتے جاتے۔ تبلیغ و اشاعتِ اسلام کا فریضہ سفر و حضر میں کہیں بھی چھوٹنے نہ پاتا تھا۔

## شعروادب !

آپ کو شعروادب سے بھی دل چسپی تھی۔ سخنِ فہم اور سخنِ گو بھی تھے۔ آپ کے شعراور دکی بجائے آمد کا بہترین نمونہ ہیں۔ عربی، فارسی اور پنجابی میں شعر گوئی کی۔ لیکن اسے صرف اپنے ذوقِ سخنِ گوئی تک محدود رکھا۔ کیونکہ سخنِ گوئی جس کیسوی اور تنہائی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس سے دین کی تبلیغ و اشاعت میں رکاوٹ پڑتی تھی۔ عربی فارسی اور اردو پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ عربی دانی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک عرب نے آپ کو عربی زبان میں خط لکھا۔ آپ نے اس کے خط کا جواب بھی عربی میں دیا۔ زبان اس قدر فصیح و بلیغ اور صحیح استعمال کی، کہ وہ شخص اہل زبان ہونے کے باوجود عیش عیش پکارا اٹھا، آپ کی عربی دانی پر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں خیال کرتا تھا کہ یہاں کوئی عربی دان نہیں۔ آج معلوم ہوا کہ میں غلطی پر تھا۔ انتہائی طوائف الملوکی کے دور میں آپ نے شعروادب کے بے مثال نمونے پیش کیے۔

”تحفہ رسولیہ“ عربی خطبات اور دیوانِ جنوئی اپنے دور کے علمی و ادبی شاہکار تسلیم کیے جاتے ہیں، یہاں آپ کے کچھ اشعار بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں :

یا نبیؐ جان و دل فدائے تو      رشکِ شمس و قمر ضیائے تو  
سید الانبیاء ختمِ رسل      جملہ در مدحِ تو ثنائے تو  
تاجِ لولاکِ برتِ زبید      شد لعمرکِ بر قبائے تو



الایا ایہا الشاکِ اذ ب نفساً و جملہا      کہ بے صبر اندر میں منزلِ نگر و محلِ مشکِ لہا  
چو راہِ عشقِ بسپردی حظوظِ نفسِ کمتر جو      کہ فرشِ خار و خاکِ تر بہ از قالینِ نملہا  
غلامِ شاہِ محی الدینِ شدم ثناوم ز بختِ خود  
رسیدم در مقامِ دل پریدم جملہ منزِ لہا



در عینی وصلِ تشنہ زلال وصال او      از فضلِ دوست طلبِ مزیدم علی الصبح  
زاں شب کہ من غلامِ شہِ محی الدینِ شدم  
شاہِ سر پر عرشِ مجیدم علی الصبح

من بنده محی الدینیم بر آستان جبینم  
از کمترین کمینم خواه هم حضور دیگر



در غنم بجز بتاں صبر و ثبات ست غلط  
هم ملاعات غلط جمله لقا نشت غلط  
مهر مفتی است غلط حکم قصا نشت غلط  
کعبه بے بیچ خفا هم چو منا نشت غلط  
عشق ذات ارن بود عشق صفات غلط  
هم حیانت ست غلط باز مات ست غلط

بے وصال تو صنم حرف حیانت غلط  
هم کلام ارشندی لحظه باں شیریں لب  
در قصا خانه دل عشق بود فتوی ده  
تا دل از غیر نشد پاک مسلمان نیست  
طالب ذات نباشد بصفاتش میله  
هر که واقف نشد از رمز نهانی وجود

روح اخلاص بود در تن اعمال یقین

روزه و حج نماز ست و زکوة ست غلط



همت فرما و گرشد یار تو      میتوان کندن بناخن کوه قاف

هر که شد از دل غلام محی الدین  
گشت تقصیرات او کلی معاف



# علیہ مبارک اور لباس

آپ کا رنگ گندمی، چہرہ گول، جوں چاند کا ہالہ، آنکھیں بڑی اور موٹی جن سے  
ذکاوت، تقدس اور شرم و حیا کے علاوہ جلال و جمال بھی ٹپکتا تھا۔ ابرو اور بالکیں گھنی،  
دہن مبارک گول اور تنگ، دندان مبارک لعل و یاقوت کو شرماتے تھے۔ کشادہ پیشانی  
سینہ چوڑا، بازو کی مچھلیاں بھری اور ابھری ہوئیں، قد بوٹے کی طرح نکلتا ہوا، جسم نہ  
بہت دُبلانہ مائل بہ فرہی، ہاتھوں کی انگلیاں خوبصورت اور لمبی۔ غرضیکہ آپ ایک  
بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ سب رفتار تھے۔ چلتے تو نظریں جھکا کر اور دائیں بائیں  
بہت کم دیکھتے تھے۔

لباس میں قمیص، پانجامہ استعمال کرتے تھے۔ سر پر ہمیشہ ٹوپی پہنتے اور اس پر  
گول سفید دستار باندھ لیتے۔ کبھی کبھی گھر میں تہ بند بھی استعمال کرتے تھے۔ سفید رنگ  
سے آپ کو خاص انس تھا۔ سفید لباس زیادہ پسند فرماتے۔ اس بات کا خاص اہتمام  
کرتے کہ لباس سادہ، لیکن صاف سمھرا اور شریعت کے مطابق ہو۔ لباس میں کوئی  
غیر شرعی کاٹ چھانٹ قطعاً پسند نہ تھی۔ مریدوں کو بھی ہمیشہ نصیحت فرماتے  
کہ لباس شرعی رکھیں۔



## طریقِ گفتگو !

آپ کی گفتگو میں بڑی ملامت تھی۔ زیادہ اونچی آواز میں نہ کسی کو بلاتے اور نہ خود ہی بلند آواز میں بات کرتے بلکہ لب و لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ حلقے میں بیٹھے ہوئے یا مخاطبین آسانی سے سن کر مطلب سمجھ پاتے۔ بات کرنے میں عجلت یا تیزی و طراری نہیں ہوتی تھی بلکہ اس رفتار اور انداز سے گفتگو فرماتے کہ سننے والا اگر چاہتا تو لفظ اور حرف تک گن سکتا تھا۔ یہ انداز اس لیے اختیار فرماتے کہ تبلیغ و نصیحت کے وقت یہ انداز بڑا دلنشین ہوتا ہے۔ سامع کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اترتی چلی جاتی ہے، اور جہاں اسے کچھ توقف ہو وہ سن کر وضاحت کر سکتا ہے نیز اس سے سامع کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اسے مرعوب کرنے کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے۔

گفتگو میں شفقت و محبت کی شیرینی ہوتی تھی۔ جو شخص ایک مرتبہ آپ کی مجلس یا حلقے میں بیٹھ جاتا وہ غلام بے وام بن جاتا۔

گفتگو میں اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اگر مخاطب سادہ لوح آن پڑھ ہوتا تو بالکل ٹھیکہ دیہاتی لہجہ اختیار کر لیتے۔ اگر مخاطب صاحب علم و فضل ہوتا تو اس کے علم و فضل کے پیش نظر بلند سطح پر گفتگو فرماتے۔ اس سے اظہارِ علمیت ہرگز نہ تھا بلکہ صاحب علم حضرات خود بھی اسی قسم کی گفتگو پسند کرتے ہیں اور پھر ان کا شعور اور ذہنی سطح بھی عام لوگوں کی نسبت کہیں بلند ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ اس بات کا خاص خیال رکھتے۔

آپ کی گفت گو میں نہایت متانت اور سنجیدگی ہوتی تھی۔ بے جا تمسخر اور ٹھٹھ مذاق سے اجتناب فرماتے۔ گفت گو عین شریعت کے مطابق ہوتی تھی۔ اس میں چھوٹے بڑے کا ادب و احترام اور شفقت و محبت ملحوظ خاطر رکھتے۔ اشارۃً یا کنایتہً بھی کوئی ایسی بات نہ کرتے جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ کبھی درشت لہجے میں بات نہ کرتے۔ جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا تو قطع کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرتے۔ جب تک دوسرا شخص اپنی بات مکمل نہ کر لیتا اس وقت تک خاموشی سے اس کی بات سنتے اور صرف جواب میں اتنی بات فرماتے جس سے مخاطب کو اپنی بات کا جواب مل جاتا۔ طول و طویل گفت گو سے اجتناب کرتے کہ اس سے بحث و مباحثہ کا پہلو نکلتا ہے جس سے تلخی پیدا ہوتی ہے۔

اگر کوئی دینی یا علمی بات پوچھتا تو کمال متانت کے ساتھ اسے سمجھاتے، اور مسئلہ کو پوری طرح ذہن نشین کرا دیتے۔

گفت گو ہمیشہ مدلل فرماتے تھے تاکہ مخاطب یا سامع یہ نہ خیال کرے کہ آپ اپنے آپ کو حکم کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔

دینی مسائل پر جو گفت گو فرماتے وہ آیات قرآنِ مبین اور احادیث کے حوالوں سے مزین ہوتی۔ اس کے ساتھ علمائے دین اور ائمہ کرام کے حوالے بھی دیتے تھے۔ چونکہ طبیعت میں شعر گوئی کا ملکہ بھی تھا۔ اس لیے بعض اوقات گفت گو میں ویسے و برہان کے طور پر شعر بھی استعمال کرتے تھے۔

جو کوئی دینی یا علمی بات پوچھنا چاہتا تو اس کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اچھے علمی اور دینی موضوعات پر بات چیت کر کے خوشی محسوس کرتے۔ دینی مسائل کے متعلق جس کسی میں تبحر کا مادہ پاتے تو اس پر بہت خوش ہوتے اور ہر موقع پر اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔

## عادات و اطوار !

لباس اور گفت گو کا بیان وضاحت سے ہو چکا۔

اب آپ کے دوسرے عادات و اطوار کا ذکر کرتا ہوں۔

حضرت خواجہ قصوریؒ آداب مجلس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ خود بھی اس کی پابندی کرتے اور دوسروں سے بھی پابندی کی توقع رکھتے۔ مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنے کو معیوب خیال فرماتے۔ ہمیشہ مجلس میں دو زانو بیٹھتے اور دوسروں کو بھی اسی طرح بیٹھنے کی نصیحت فرماتے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر مجلس بیٹھ چکی ہوتی اور آپ بعد میں تشریف لاتے تو ہمیشہ خود سلام کرتے اور سلام کا جواب نہایت محبت اور شفقت سے مسکرا کر دیتے۔ کوشش فرماتے کہ مصافحہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستحسن قرار دیا ہے۔

عام مسلمانوں اور خاص کر مریدین کو ایک دوسرے سے احسان و مروت کا سلوک کرنے کی نصیحت فرماتے۔ خود ارکانِ دین کی سختی سے پابندی کرتے، اور مریدین اور جملہ مسلمانوں کو بھی دین اسلام کے ارکان کی پابندی کا مشورہ دیتے۔ آپ کا اپنا معمول تھا کہ رات کے تیسرے حصے میں بیدار ہوتے اور ذکر و فکر مراقبہ اور حلقہ

میں مصروف ہو جاتے۔

نماز تہجد کی سختی سے پابندی کرتے اور مریدین کو بھی نماز تہجد ادا کرنے کا حکم فرماتے۔

آپ کے معمولات میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ روزانہ پانچ پارے قرآن حکیم کے تلاوت فرماتے تھے، باقی عبادات اس کے علاوہ تھیں۔  
تلاوت کے بعد دعائے مغنی شریف، قصیدہ غوثیہ شریف، قصیدہ بروہ شریف اور دعائے حزب البحر وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔

مریدین کو بھی تلاوت قرآن حکیم کا سختی سے حکم فرماتے کہ اس سے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے اور اطمینان قلب کی دولت ملتا ہے۔

محفل میں ہر شخص کو آنے کی اجازت تھی اور فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کے دروازے ہر کس و ناکس پر کھلے ہیں۔ یہاں کسی پر کوئی پابندی عاید نہیں۔ سفر و حضر میں نماز ہمیشہ وقت پر اور باجماعت ادا فرماتے۔ جب سفر درپیش ہوتا تو راستے میں بھی تبلیغ و اشاعت اسلام کا فریضہ انجام دیتے جاتے۔

آپ کو اگر کوئی مرید یا دوسرا شخص دعوت دینا تو اسے رد نہ کرتے بلکہ اس کی دعوت قبول فرما لیتے اور کہتے کہ دعوت کا قبول کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے مسلمانوں میں باہمی اتفاق، محبت اور انس بڑھتا ہے۔

آپ انتہائی متحمل، صابر و شاکر اور بڑبڑا رہتے۔

آپ کی عادت مبارک یہ بھی تھی کہ کھانے میں کسی قسم کا تکلف نہ فرماتے جو چیز کھانے

کے لیے سامنے رکھی جاتی اس میں عیب سرگز نہ نکالتے۔ البتہ جو چیز مزاج کے مطابق نہ ہوتی اسے استعمال نہ کرتے۔ ساری زندگی کھانے کے معاملے میں کم خور رہے۔ کھانے میں کبھی بسیار خوری سے کام نہ لیا۔ فرماتے تھے کہ بسیار خوری عبادت کے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ اس سے روح اپنی لطافت کھو بیٹھتی ہے۔ اور حیوانی جذبات بڑھتے ہیں۔

دستر خوان پر بیٹھے تو نشست و برخاست ہمیشہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھتے۔ اگر عام مجلس میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تو سب کے ساتھ بیٹھے اور سب کے ساتھ اٹھتے۔ بعض لوگوں کی طرح دسترخوان کو ہتم و بالا کرنے کی عادت نہ تھی۔ صرف ضرورت کے مطابق ہی کھانا برتن میں لیتے مریدین کا طریقہ تھا کہ وہ آپ کے معمولات اور طریقوں کا جائزہ، اور مشاہدہ کرتے اور اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے میں کوشاں رہتے۔ حضرت خواجہ قصوریؒ زندگی کے ہر معاملے میں یہاں تک کہ نشست و برخاست میں بھی سنت رسولؐ کی سختی سے پابندی کرتے۔

ہر نماز سے قبل مسواک کرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے پابندی کرنے کو فرمایا ہے۔ دن میں صرف ایک مرتبہ ذکر و فکر کے لیے حلقے کا اہتمام فرماتے۔ اس سے مریدوں کا تزکیہ نفس، ان کی روحانی قوت کا فروغ اور دل میں عشق حقیقی کی آگ کو شعلہ زن کرنا تھا۔

اکثر نمازِ مغرب کے بعد حلقہ منعقد کرتے تھے۔

جب کسی پر توجہ فرماتے تو تسبیح ہاتھ میں رکھتے۔ جب کوئی خالصاً دنیا دار آدمی آپ کے پاس آتا تب کچھ پڑھا کرتے تھے کہ یہ چلا جائے۔

آپ اپنے مریدوں کو اور عام لوگوں کو بھی تبلیغ میں نصیحت فرماتے، کہ منصائب و تکالیف میں انسان کو صبر کرنا چاہئے۔ اور تشکیبائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہئے۔

آپ اپنی ہر نصیحت میں صبر و شکر اور عزم و استقلال کی تلقین فرماتے تھے جب ہم حضرت خواجہ قصورچی کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات میں اس پہلو کو محور و مرکز کی حیثیت حاصل ہے، تو ہمارے سامنے اس دور کا سیاسی نقشہ کھینچ جاتا ہے اور یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ نصیحت کے اس پہلو میں ایک زبردست حکمت پوشیدہ تھی وہ یہ کہ اس دور میں سلطنتِ مغلیہ کا آفتاب اقبال گہنا چکا تھا۔ مسلمانوں کی ہزار سالہ حکومت و سلطنت اب دم توڑ رہی تھی۔ ہندو سکھ مرہٹے اور انگریز مسلمانوں کے دشمن ہو رہے تھے۔ خاص کر پنجاب میں سکھ گردی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کے دل میں اپنے ہزار سالہ اقتدار اور دولت کے برباد ہونے کا رنج و غم تھا تو دوسری طرف ان پر دشمنوں نے زمین تنگ کر رکھی تھی۔ ایسے میں حسرت و یاس کا چھا جانا اور ہمت ہار بیٹھنا ایک فطری سی بات ہے، یہ ساری سیاسی صورتِ حال آپ کے سامنے تھی۔ آپ وقت کے نباض تھے اور جانتے تھے کہ ایسے میں مسلمانوں کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔

لہذا یہ ضروری تھا کہ

روحانی ثروت کے ساتھ مسلمانوں کے حوصلے بندھائے جاتے۔ انہیں مصائب و تکالیف برداشت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتے رہتے تاکہ انہیں حوصلہ اور اطمینان ہوتا۔

اس سے یہ امر بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ بعض دوسرے مسلمان صوفیا کرام کی طرح محض گوشہ عافیت میں بیٹھنے والے نہ تھے بلکہ حالات کے ہر پہلو پر آپ کی نظر ہوتی تھی اور آپ جملہ مسلمانوں کے سیاسی مذہبی اور معاشرتی مسائل سے پوری طرح آگاہ تھے۔

یہ امر آپ کی وسعت نظر اور ایک عظیم تر مقصد کی غمازی کرتا ہے اور اپنے ہم عصروں پر آپ کو فوقیت عطا کرتا ہے۔

آپ کی عادت مبارک یہ بھی تھی کہ کسی شخص کو اس کے جائز مرتبے یا رتبے سے زیادہ نہ بڑھاتے تھے۔ جو شخص قابلِ تعریف ہوتا اس کی تعریف کرتے کہ یہ سنتِ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ فرماتے تھے، کہ بے جا تعریف سے نفس بے قابو اور فخر و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور فخر و تکبر کی لعنت نے فرشتوں کے استاد ابلیس کو قصرِ مذلت میں گرا دیا تھا۔

## علمی فضیلت !

حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری دایم المحضوری نے جن دو اشخاص سے تحصیل علم کیا وہ دونوں اپنے وقت کے جید عالم اور صاحبِ دل بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ شیخ محمد صاحب جو آپ کے عم محترم تھے اور جنہوں نے والد محترم کی وفات کے بعد آپ کی پرورش اور تعلیم کا ذمہ لیا تھا اور دوسرے حضرت شاہ غلام علی دہلوی جو دہلی کے مشہور بزرگ اور شاعر حضرت خواجہ مظہر جان جاناں کے خلیفہ اور مرید خاص تھے۔

حضرت خواجہ قصوری کو قرآن و حدیث، منطق فلسفہ، فقہ، اسماء الرجال، فصاحت و بلاغت، خطابت، قواعد، صرف و نحو، شرح، شعر و ادب اور اس کے علاوہ تمام علوم متداولہ پر پورا پورا عبور حاصل تھا۔ آپ کے استاد اور پیرو مرشد حضرت شاہ غلام علی دہلوی نے اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ مظہر جان جاناں شہید کے حالات پر مشتمل ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس کے آخر میں خلفائے مظہریہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خواجہ قصوری کے متعلق یوں گویا ہوئے ہیں :

”جامع الکلمات علوم ظاہر و باطن حضرت مولوی محی الدین کہ تلامذہ و مستفیدان بسیار دارند از بلکہ قصور نزد این سراپا تصور آمدہ سعادت فیوض باطن کردند۔ بعنایت الہی سبحانہ و راندک مدت بہ نسبت لائے احمدیہ مناسبت ہم رسانیدہ اجازت بلکہ خلافت یافتہ فاطمہ اللہ سبحانہ عم نوالہ اللہ تعالیٰ بفضل عام خود ایشان را مروج طلاب محبت و معرفت جناب ربانی خود و امام مستفیدان فرماید (امین)



سبحان اللہ والحمد للہ ایں ہمہ انعاماتِ الہی بواسطہ حضرت ایشا یعنی  
 حضرت مرزا صاحب مرزا مظہر جان جاناں است علیہم الرحمۃ والرضوان  
 من عمر برباد وادہ سست وکسلان کہ وصف پیرسیت جوانی بہ غفلت  
 بسر بردہ یابین مرتبہ ہاشم ازین تا چیز کہ عزیزان استفادہ نمودہ و می  
 نمایند افادہ فیوض حق سبحانہ محی کنند ستاریہائے اوست عم نوالہ  
 امید دارم کہ روز قیامت در زمرہ ایں طریقہ علیہ بر خیزم و  
 بہ یمن عنایات حضرت ایشا از فائز ان و مفلحان ہاشم - آمین !  
 ایک اور خط میں حضرت مولانا بشارت اللہ صاحب بہراچی رحمۃ اللہ علیہ کو  
 تحریر فرماتے ہیں کہ

”اکثر میگویم کہ سہ چہار کس در یارانِ من  
 شام و میاں ابو سعید و رؤف احمد و احمد سعید  
 و دیگر مولوی قصوری غلام محی الدین پیدا  
 شدہ است۔“

ایک موقع پر جب کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے پاس مفتی شہر بھی تشریف  
 رکھتے تھے اور یہ دور وہ تھا کہ حضرت خواجہ قصوری اپنے پیرومرشد کی نگرانی میں  
 حصولِ تعلیم میں مصروف تھے اور سلوک کی منزلوں سے گزر رہے تھے حضرت شاہ  
 غلام علی دہلوی نے مفتی شہر کو مخاطب کر کے حضرت خواجہ قصوری کے متعلق فرمایا تھا کہ

” تین چار ماہ ہوئے یہ مولوی صاحب فصور  
 سے تشریف لائے۔ ان تین ماہ کے اندر  
 اندر انہوں نے وہ کچھ حاصل کر لیا جو تم  
 چھ سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ  
 ہمارے بڑھاپے کی محنت ہیں۔“

آپ کے استاد محترم کے یہ الفاظ اس حقیقت پر دال ہیں کہ آپ کا علمی مرتبہ  
 بڑا بلند تھا۔ بڑے ذہن رساتھے اور علم کے حصول کا شوق بھی تھا اور اس پر یہ کہ  
 اللہ تعالیٰ نے صاحب علم اساتذہ اور بزرگوں کی صحبت بخشی۔ جہاں یہ سب پہلو یکجا  
 ہو جائیں وہاں اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علمی اعتبار سے آپ کی شخصیت کس پایہ کی ہوگی  
 آپ کے اشعار و خطبات اور باقی تصانیف آپ کی علمی فضیلت پر گواہ ہیں۔ مگر  
 افسوس کہ تفصیل کے ساتھ آپ کی تصانیف کو جمع نہیں کیا جاسکا۔ نامعلوم زمانے  
 کی دست برد نے کتنے اہم و علمی گوہر ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیئے۔ لیکن  
 اس کے باوجود آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف ہیں جن سے آپ کا بلند علمی پایہ  
 ظاہر ہوتا ہے۔ :-

۱۔ تحفہ رسولیہ شریف (فارسی نظم)

۲۔ دیوان حضور (فارسی نظم)

- ۳- رسالہ نظامیہ شریف در مسئلہ توحید (فارسی نظم)
- ۴- خلاصۃ التقریر فی مذمت المزامیر
- ۵- رسالہ در رد فرقہ ضالہ و ہابیہ
- ۶- رسالہ سلالہ
- ۷- زاد المحاج (بزبان پنجابی)
- ۸- خطبات جمعہ و عیدین (فارسی و عربی نظم)
- ۹- شرح و بیباچہ بوستان (بزبان عربی)
- ۱۰- شرح درود مستغاث
- ۱۱- ملفوظات شریف حضرت شاہ غلام علی دہلوی <sup>رح</sup> المشہور
- چہل مجالس
- ۱۲- مکتوبات شریف

## طریقِ بیعت !

آپ موسوی المشرب تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال کی حالت میں کتاب تورات کو زمین پر وے مارا تھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے بالکل اسی طرح حضرت خواجہ قصوریؒ نے فتاویٰ کی ایک کتاب کو جلال میں آ کر زمین پر وے مارا، اور خود بھی غش کھا کر گر پڑے۔

آپ کو اپنے پیرو مرشد حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلویؒ کی طرف سے تصوف کی چھ سلسلوں میں ہی بیعت و خلافت کی اجازت تھی۔ مردوں میں سے جب کسی کو حلقہ مریدی میں داخل کرتے تو اول پیرانِ کبار کی روح کو ایصالِ ثواب فرماتے ان سے استمداد طلب کرتے۔ پھر طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر مصافحہ کرتے۔ تسمیہ پڑھتے۔ پھر مرید کو حکم ہوتا کہ وہ تین بار استغفار پڑھے۔ اس کے ساتھ خود بھی استغفار پڑھتے **اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوبُ اِلَيْهِ** پھر سہ بار کلمہ طیبہ **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ** پڑھتے اور پھر طریق قادریہ تعلیم فرماتے کہ صبح کو ۲۵ بار استغفار ۲ بار الحمد شریف سہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پیرانِ کبار کی روح کو ایصالِ ثواب کرے اس طرح کہ الہی! بحرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثوابِ این کلام بہ ارواح غوث الثقلین، خواجہ بہاؤ الدین، شاہ نقشبند مع جمیع پیران و جمیع خلفاء و شاہ غلام علی صاحب برساں۔ بعد ازاں طالب متوجہ بقلب ہو اور زبان قلب سے ذکر اسم ذات کرے۔ زبان تالو سے چمٹا کر خیال سے **اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ**

اَللّٰهُ اَشْهُوُّكَ كَرِهَ - اس کے معنی کو بھی نگاہ میں رکھے کہ موصوف بصفاتِ کاملہ  
 ہے اور صفاتِ ناقصہ سے منزہ ہے یہ ایمان رکھے۔ تین سو بار بلا تامل پڑھے  
 ۲۵ مرتبہ پڑھنے کے بعد ذاتِ باری تعالیٰ سے عرض کرے۔ الہی! تو ہی میرا  
 مقصود ہے میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں اپنی محبت اور معرفت مجھے عطا فرما۔  
 اسمِ ذات کا یہ معمولی فیض ہے جس قدر کثرت کر سکے کرے اور اللہ تعالیٰ کی  
 طرف سے نتائج دیکھے بعد اس کے نمازِ ظہر اور عصر کے بعد ۲۵ بار استغفار پڑھے  
 بعد شام اول گیارہ مرتبہ درود شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
 مُحَمَّدٍ وَعَمْرَتَيْهِ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لِّكَ ط اس کے بعد ۱۱۱ مرتبہ  
 یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیبًا لِلّٰہ - پڑھے۔ اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ  
 مذکورہ درود شریف پڑھے۔ بعد نمازِ عشا تین سو مرتبہ درود شریف مذکور پڑھے  
 یہی وظیفہ دن رات پڑھنے کا حکم فرماتے۔ ہر وقت اسمِ ذات کا دل میں خیال رکھ  
 کر دل کو بُرے خیالات سے بچانے کی تاکید فرماتے۔ بعض بلند ہمت مریدین  
 اور احباب کو ولایت عالیہ کے مراقبے کے ساتھ رمضان المبارک میں اعتکاف  
 کے ساتھ، تین دن تک دعائے حزب الجبر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا باجماعت  
 مسجد میں حکم فرماتے۔ اس دوران اسمِ ذات اور نفی اثبات کا بھی ترکیب معلوم کے  
 ساتھ حکم دیتے۔ یہ کبھی نہ ہوتا تھا کہ کسی شخص کو حلقہ مریدین میں شامل کر کے اسے اس  
 کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ مریدین کو احکام شریعت کی پوری پوری پابندی

کا حکم دیتے۔ خلافِ شریعت کسی کا کوئی فعل برداشت نہ کرتے تھے۔ مریدین کے قلب و نظر کی اصلاح و تربیت کی طرف گہری توجہ دیتے۔ اپنے ایک مکتوب میں جو پیر ابراہیم خاں کے نام ہے لکھتے ہیں :

”مبادک ہیں وہ لوگ جو اتباعِ شریعت کرتے

ہیں الامان۔ خدا کی پناہ۔ شریعتِ اصل ہے

طریقیت و حقیقت فروع ہے جو اس

کے خلاف کرے وہ محروم ہے، از

اسرارِ شرح سیدالاولیاء جناب حضرت

غوث الثقلین فرماتے ہیں

”کل حقیقت ردّ تھا الشریعت

فہی زندقہ ط

یعنی جس چیز کو شریعت رد کرے وہ

گمراہی ہے !

پھر فرماتے ہیں کہ اگر اہل مکاشفہ پر

شریعت کے خلاف اسرار ظاہر ہوں وہ امر

نہیں بلکہ کذب ہے بے دینی ہے !

## نظریہ وحدت الوجود کی مخالفت !

حضرت خواجہ قصوری دامم المحضوریؒ نظریہ وحدت الوجود کے شدید مخالف تھے اور فرماتے تھے کہ ذات باری تعالیٰ کسی دوسری چیز میں حلول نہیں فرماتی۔ ہمہ اوست سے سخت نفرت و حقارت اور بیزاری کا اظہار فرماتے اور کہتے کہ بے شک وہ رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے اس لحاظ سے ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرب و معیت بے شک ثابت ہے مگر اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔

آپ فرماتے تھے کہ اگر ہمہ اوست حق بودے تو حضرت شیخ منصور حلاجؒ کیوں سولی پر چڑھائے جاتے۔ حضرت رحیم داد جب ایک مرتبہ منصور حلاجؒ کے مزار کے پاس سے گزرے تو چہرے پر نقاب ڈال لی، اور اس طرف سے منہ پھیر لیا۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ :

”صاحبِ این قبر مطعونِ شریعت تھا اس لیے میں نے نہ چاہا کہ ایسے شخص کو دیکھوں اور حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں۔“

(کلام مکتوبات شریف)

آپ نے نظریہ وحدت الوجود کی ہمیشہ مخالفت کی اور اس کے رد میں قرآن، حدیث اور صوفیائے کرام و مشائخِ نظام کے اقوال اور ان کی تعلیمات سے حوالے پیش کیے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان کہیں اس خلافِ دین و شریعت نظریے میں گرفتار

ہو کہ راہِ مستقیم سے بھٹک نہ جائیں اور اسلام کو اپنوں ہی کے ہاتھوں سے نقصان نہ اٹھانا پڑے اور ملتِ اسلامیہ گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نظریے کی مخالفت میں آپ کو کسی سے بحث و تمحیث اور مناظرہ بھی کرنا پڑا۔ قیاس کہتا ہے کہ جب کسی کو آپ کی علمی فصیلت اور مرتبہ علم و فضل کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ تو پھر مناظرہ کون کرتا؟



## تقاضائے وقت !

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی یا پیغمبر مبعوث نہیں ہو سکتا لہذا اس کے ساتھ ہی وحی خداوندی کا دروازہ بھی بند ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رشد و ہدایت کی روشنی سے کسی دور میں بھی محروم نہیں رکھتا۔ کیونکہ انسان ہر لمحہ ہدایت و رشد کا محتاج ہے اور پھر کفر و شرک، حق و باطل اور خیر و شرک کی قوتیں ہر دور میں آپس میں برسرِ پیکار رہی ہیں۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ رشد و ہدایت کی ضرورت بھی ہر دور میں ہوتی ہے ورنہ انسان آسانی کے ساتھ باطلی اور شرکی قوتوں کا شکار ہو جائے لیکن جب نبوت کا دروازہ



بند ہو چکا تو اب یہ فریضہ کن لوگوں کے ذمے ہے ؟ اس کی وضاحت قرآن حکیم نے  
ان الفاظ میں کر دی ہے :

”..... اور ہاں تم میں ایک ایسی جماعت  
ہونی چاہئے جو نیکیوں کا حکم دے ، اور  
برائیوں سے روکے.....“ (القرآن)

یہ جماعت کون سے لوگوں کی ہے ؟

اس میں علمائے حق ، صوفیائے کرام ، مشائخ عظام اور اولیاء اللہ شامل ہیں۔  
یہ وہ لوگ ہیں جن کی ضرورت کی طرف قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں اشارہ کیا ہے  
اس سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جن حالات میں انبیاء اور رسول علیہم السلام دنیا  
کو رشد و ہدایت کا درس دینے کے لیے آتے ہیں انہی سے ملتے جلتے حالات کا سامنا  
ان مشائخ ، صوفیاء اور اولیاء اللہ کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ دونوں کے ذمے بنی نوع  
انسان کی رشد و ہدایت کا فریضہ ہے اگرچہ دونوں گروہوں کے فرائض بڑی حد تک  
مختلف ہیں۔ کیونکہ پیغمبر تو ایک انقلابی پروگرام لے کر آتا ہے اور وہ اس وقت کے لوگوں  
کی روش اور ڈگر کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے یہی اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں  
کو جن کی طرف اسے بھیجا گیا ہے ایک نیا لائحہ عمل دے اور زندگی میں ہمہ گیر انقلاب  
پیدا کرے یہ سب کچھ وحی خداوندی کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔

لیکن !

اس کے برعکس اولیاء ، صوفیاء اور علمائے حق صرف دین حق کے چشموں کو شرک و کفر

کی غلامت سے پاک کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی بھولی بسری باتیں یاد دلاتے ہیں، وہ کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا پروگرام اور کوئی انقلاب لے کر نہیں آتے۔ وہ روحانی قوت کے اعتبار سے بھی انبیاء اور رسولوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتے اور نہ ان پر کوئی کتاب یا وحی نازل ہوتی ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں علم و بصیرت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کے اتباع میں کرتے ہیں۔

ان حالات میں !

جب ہم محترم خواجہ قصوری دامم المحضوری کے دور اور آپ کی دینی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ احساس بڑی شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ فطرت نے آپ کو اس عالم آب و گل میں لاکر وقت کا ایک بہت بڑا تقاضا پورا کیا تھا۔ فطرت کا یہ اپنا قانون تھا۔

اس پر عمل ہونا ضروری تھا، وہ دور کسی ایسے مردِ خدا دوست کا متقاضی تھا جو ان حالات کا مقابلہ کر کے دین کا احیا کرنا اور مسلمانوں کو جن پر ابتلا و آزمائش کا آسمان ٹوٹ پڑا تھا دینِ فطرت پر قائم رہنے کا حوصلہ اور عزم بخشتا۔ طوائف الملوکی اور مسلمانوں کے زوال نے انہیں جس طرح بدول کر دیا تھا جینے کا سبق دیتا۔ مگر اسی اور ضلالت کی تاریکیوں میں حق و صداقت کے چراغ روشن کرتا۔ طوفان کے تیز و تند تھپڑوں سے لڑتا اور دینِ اسلام کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو سہارا دیتا۔ رشد و ہدایت کی ایسی شمع روشن کرتا جو مایوسی کی اس تیرہ شب میں مسلمانوں کو راہ منزل کا پتہ دیتی اور خاص کر مسلمانوں کو بیابانیت اور قنوطیت کے اس نظریے سے محفوظ رکھا جاتا جو وحدت الوجود کی صورت میں ان حالات

میں پُر پُر زے نکال کر مزید فضالت و گمراہی کا سبب بنتا ہے۔

حالات کا یہی تقاضا تھا جس نے حضرت خواجہ قسوری دامم المحضوری کو اس عالمِ آب و گل میں جنم دیا۔ اور منشاء ایزوی نے آپ کو وہ عظیم ذمہ داری سونپی جس کی طرف قرآن مجید نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ

”اے ایمان والو! تم میں ایک ایسی جماعت  
ہونی چاہئے جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں  
سے روکتی رہے۔“ (القرآن)

واقعات و حالات ثابت ہیں کہ آپ نے تبلیغ و اشاعتِ اسلام کی اہم ترین  
ذمہ داری کو بہ احسن و جود پورا کیا اور سر زمین پنجاب کے علاوہ برصغیر کے دور دراز گوشے  
آپ کی تعلیمات سے منور ہو گئے۔

اور !

آپ نے اسلام کی عظیم خدمات انجام دیں !

## وفاتِ حسرتِ آیات !

ایک عرصہ تک یہ آفتابِ عالم تاب برصغیر کے انتہائی تاریک گوشوں کو منور کرنے  
کے بعد ۲۲۔ ذیقعد ۱۲۷۰ھ کو غروب ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آپ کا وفات پاجانا گویا ایک جید عالم، ایک باکمال شاعر، ایک زبردست فقیہ  
قطبِ وقت، سرناجِ الاویا، ایک عظیم صوفی، ایک عظیم مصلح، ایک راہنمائے قوم

ایک بے بدل حافظِ قرآن، ایک محدث اور ایک سچے اور صحیح مومن کا دنیا سے ناپید اور اوجھل ہو جانے کے مترادف تھا۔

وصالِ باکمال کا واقعہ بھی ایک اچھوتی حیثیت کا حامل ہے :-

وفات سے قبل مثنوی مولانا روم کا درس دیا۔ اور اس میں ادیبائے کرام اور صوفیاء کی موت اور ان کی دائمی حیات کا بڑا تذکرہ فرمایا۔ درس دینے کے بعد مراقبے میں چلے گئے۔ اور اسی حالت میں روح مبارک جسدِ فانی سے عالمِ جاودانی کو سدھار گئی مریدین اور عقیدت مندوں کو شبہ گزرا کہ شاید رقتِ قلب کے سبب سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ آخر کار وہ عصر کی گھڑی تھی جب آپ کے جسدِ مبارک کو لحد میں اتارا گیا۔

مزارِ اقدسِ قصور میں ہے۔ اور آج بھی مرجعِ خاص و عام ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۸ سال کے لگ بھگ تھی۔

قصور میں ایک عقیفہ رہتی تھی اسے حضرت خواجہ قصوری کے جسدِ امجد کی زیارت کا بھی شرف حاصل تھا۔ اس عقیفہ نے خواجہ قصوری کی وفات سے چند روز قبل کہا کہ

”میرا انتقال فلاں روز ہوگا اور میرے

ساتھ ایک اور صاحبِ بصیرت کی بھی

رحلت ہوگی۔“

لیکن اس وقت لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آسکی اور کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہ دی۔ اور پھر جس وقت حضرت خواجہ قصوری کا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو لوگ اس عقیفہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کی سمجھ

میں یہ بات آئی کہ مرحومہ مومنہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔

بعد میں اس مرحومہ کی بیٹی نے حضرت خواجہ قصوریؒ کے صاحبزادے اور خواجہ  
ثانی قصوری حافظ عبدالرسولؒ سے یہ قصہ بیان کیا اور بتایا کہ  
”میری والدہ نے اپنی وفات سے چند  
روز قبل کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک  
صحابی جائے گا۔“

آپ کی وفات پر لوگوں نے عجیب و غریب تاریخیں کہیں۔ ایک تاریخ تو  
نہایت ہی دلچسپ ہے :

”شمس دین نبیؐ زوال گرفت!“

مزار اقدس کے سرانے ایک کتبہ کندہ ہے جو آپ کے خلیفہ حضرت مولانا  
غلام دستگیر صاحب ہاشمی قصوری کے زورِ طبع کا نتیجہ ہے۔  
ملاحظہ ہو :

اے خاک خانقاہ بافلاک ہمسری !

نے نے بنزد حق تو یہ رفعت فزوں تری

سرے ز نورِ عرش تو داری کہ اہلِ ارض

روشن دل انداز تو چو خوردشید خاوری

جائے قبولِ حقی و اقبال و جہاں

حقاً ز اہلِ دل تو بہ تقبیل و رخوری

جائے نزول رحمت و انزالِ فیث کرم  
 اُمّوخت ازہورقنِ کیمیاگری !  
 دریائے فیضِ باطن و امدادِ ظاہری  
 گویم ز رُوئے حق نہ کہ از راہِ سرسری  
 اھلاً مرحباست بزوارِ تو ہزار  
 بر منکرانِ شوم تو صد بعد و ابتری  
 دُر ز مدحیات تو سفتن نے تو اں  
 گو عمر جاوداں شدہ صرف ثنا گری  
 ز احسانِ بکیراں تو ممنونم اں چناں  
 کہ حرفے ادائے شکر تو دارم نہ یاوری  
 تنہا نہ این غلام بمدحت نواخت ساز  
 کیں نغمہ گوش زد شود از چرخِ چنبیری

✽

مفتی غلام سرور لاہوری نے آپ کی تاریخِ پیدائش اور وصال کو  
 یوں قلمبند کیا ہے :

اُن شہِ والا غلام محی الدینؒ

مرشدِ دینِ رہبرِ خاصِ عالم      ولادت : ۱۲۰۲ھ

چوں بہ دنیا اُن مردِ سخن      ولادت : ۱۲۰۲ھ

بخشش آمد سال تولیدش تمام ۱۲۰۲ھ : ولادت

مرشد حق منقی ہمہ گفتہ ام

نیز کردستم رقم شیخ الکرام ۱۲۴۰ھ : وفات

کن بیان تاریخ منظور مجال

ہم بخواں امر سعادت را سلام

مولانا غلام دستگیر قصوری نے "بے نظیرِ زمان" سے آپ کی تاریخ وصال

۱۲۴۰ ہجری

نکالی ہے۔

میاں یاسین لاہوری سے

از پے تاریخ اں بیدار دل

زور رقم یاسین بصد اندوہ و غم

۱۲۴۰ھ بے سرو پا گشت بے او ایں ہمہ

علم و عمل و فضل و ورع و ہمہ کرم

فرید لاہوری نے آپ کی وفات حسرت آیات کی تاریخ اس قطعہ سے نکالی ہے۔

چوں باقضائی ایزدی از گلشن وار فنا

شد جانب باغ ارم مولانا غلام محی الدین

تاریخ و صلش اے فرید انیک چو کر دم جستجو ۱۲۶۰ھ  
آمد نذا از ہاتقم مولانا غلام محی الدین

❖

اس کے علاوہ غلام محی الدین کنجاہی مرحوم نے مندرجہ ذیل تاریخہائے وفات  
کئی ہیں۔

اہر سخاوت	بے نظیر زماں	وہ ظاہر باطن کامل
۱۲۶۰ھ	۱۲۶۰ھ	۱۲۶۰ھ

مہ دین شدہ  
۱۲۶۰ھ

بہر تاریخ ائی امام جہاں  
ناگہاں اندرونِ گوکش دلم

چوں کمر بستہ اے خجستہ تہاد  
گفت ہاتف کہ داغ برجاں وارد

۱۲۶۰ھ

## کشف و کرامات !

آپ کی سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ آپ نے اس دور میں توحید کا  
پرچم بلند کیا اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ بہ احسن وجوہ انجام دیا۔  
جب کہ بڑے صغیر اور خاص کر پنجاب میں سکھ گردی کا دور تھا اور کسی کو لب کشائی کی  
جرات نہ تھی۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں  
بندگانِ خدا کو رشد و ہدایت کا درس دیا اور توحید کے وہ چراغ روشن کیے جنہوں نے



”تختہ رسولیہ“ کا ایک مقام میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ آپ سے سمجھ لیا جائے  
 میں حضور خواجہ قصوری کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اس  
 مشکل مقام کا ذکر کرتا آپ نے تختہ رسولیہ لے کر وہ صفحہ اور مقام دیکھا جو میں سمجھنا  
 چاہتا تھا۔ وہاں لکھا تھا کہ

”رسالت مآب کھانے میں نقص نہیں نکالتے

تھے اگر کوئی کھانا بامزہ نہ ہوتا تو بھی آپ

کھا لیا کرتے تھے اور نام نہیں دکھا کرتے

تھے وہ شعر یہ ہے

عیب نکروی بطعام آن حبیب

گرچہ کہ بدطعم بدی ہم معیب

نقل ہے کہ ایک مرتبہ آپ ڈنگہ ضلع گجرات میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کے  
 عقیدت مندوں میں ایک شخص حکیم پیر بخش بھی تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا  
 اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تھا وہ کہنے لگا۔

”قبیلہ آپ کا غلام زادہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام تجویز فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا کہ نومولود کا نام نور الحسن رکھو۔ اور اس کے بعد جو لڑکا پیدا ہو

بعد میں اس شخص نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص جس قبر کو اپنے عزیز کی قبر سمجھتا تھا کسی اور بزرگ کی ہے اور وہ بھی حافظ تھے۔ گویا آپ کو کشف القیور کا پورا علم تھا۔ اور آپ نے معلوم کر لیا کہ وہ شخص جس قبر کو اپنے عزیز کی قبر سمجھتا ہے وہ دراصل کسی اور کی قبر ہے آپ نے یہاں تک معلوم کر لیا کہ اس قبر میں جو شخص دفن ہے وہ بھی حافظ ہے۔



روایت ہے کہ شہر قصور میں ایک مزدور رہا کرتا تھا وہ مغلوب الغضب تھا اور لوگ اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ کسی کو اس کے مقام کا پتہ نہ تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے لیکن حضرت خواجہ قصوری و ام المہجور نے بذریعہ کشف فرمایا کہ لوگ جسے سریح الغضب کہتے ہیں وہ دراصل بہت بڑا ولی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے۔



آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ مولانا غلام النبیؒ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ فقیر قصور میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک جگہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا کھانا پکا ہوا تھا۔ یہ فقیر بھی حاضر ہوا۔ کھانا کچھ اچھا نہیں پکا تھا۔ واپسی پر یہی خیال دل میں تھا کہ لوگ حضور علیہ السلام کی نیاز کے کھانے میں بھی اس قدر بخل اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں اور کھانا اچھا نہیں پکاتے۔ اتفاقاً مجھے اس وقت خیال گزرا، کہ

ہزاروں راہ گم کردہ انسانوں کو صراطِ مستقیم پر ڈال دیا۔ تاہم اپنی روحانی قوت کے سبب آپ سے جن مکاشفات اور کرامات کا ظہور ہوا ان کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی قوت اور کشف کا وہ درجہ عطا کیا تھا کہ اپنے فرزندِ ارجمند حضرت خواجہ مولانا صاحبزادہ حافظ عبدالرسولؒ کی ولادت سے ایک سال قبل ہی اس کی خبر دے دی تھی۔ بلکہ اپنی کتاب "تحفہ رسولیہ" میں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور معجزات میں تصنیف فرمائی ہے اس میں آپ نے ایک باب باندھا ہے جس میں اپنے اس فرزندِ ارجمند کی ولادت کی خبر کے ساتھ ان کے اسم مبارک کا تقرر بھی فرمایا۔ پھر انہیں پند و نصائح بھی فرمائے۔ اس نظم کا مطلع حسب ذیل ہے۔

ایک ہنوزی تو بکتہ عدم

زود بہ گلزارِ جہاں نہ قدم

ایک مرتبہ ایک شخص آپ کو اپنے کسی عزیز کی قبر پر لے گیا۔ متوفی حافظ قرآن تھا۔ قبرستان میں پہنچ کر آپ ایک دوسری قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگے۔ اس شخص نے عرض کیا

"یا حضرت! حافظ صاحب کی قبر تو یہ ہے!"

فرمانے لگے۔

"ہاں بھئی! یہ بھی حافظ جی کی قبر ہے۔"

اس کا نام نور العین رکھنا۔ حکیم صاحب کے یہاں دوسرا لڑکا بھی پیدا ہوا۔ اتفانت  
حضرت خواجہ قصوری دامم المحضوری بھی ڈنگہ ہی میں تشریف فرما تھے۔ حکیم صاحب پھر  
حاضر خدمت آئے اور عرض کی۔ یا حضرت! آپ کا غلام زادہ نور العین پیدا ہوا ہے  
مبارک ہو۔

آپ نے اظہار مسرت فرمایا اور کہا کہ اُمّتہ جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عبدالرحمن  
رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھر لڑکا پیدا ہوا۔ تو حکیم صاحب نے اس کا نام عبدالرحمن  
رکھا۔

جب حضرت خواجہ قصوری پھر ڈنگہ تشریف لائے تو حکیم صاحب نے تیسرے بیٹے  
کی پیدائش کی خبر دی۔

آپ نے فرمایا۔

”مبارک ہو۔ ایک لڑکا اور ہوگا اس کا نام عبدالرحیم رکھنا۔“

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور حکیم صاحب نے آپ کے فرمان کے مطابق لڑکے کا نام  
عبدالرحیم رکھا۔

اس کے بعد حکیم صاحب اور حضرت خواجہ قصوری کی ملاقات نہیں ہو سکی اور پھر اس کے  
بعد حکیم صاحب کے ہاں کوئی اور اولاد بھی نہیں ہوئی۔

❖

ملفوظات ہی میں لکھا ہے کہ !

ایک شخص نے کتب احادیث و روایات اور دوسری مذہبی کتابوں میں  
علماء شہید اور ساوات کے فضائل پڑھے تو وہ اس مذہب میں پڑ گیا کہ ان میں

کون افضل ہے اور کون افضل تر۔

شاہ پور میں ایک شخص حضرت خواجہ قصوری دالم الحضورؒ کا مرید تھا۔ یہ متذنب شخص شاہ پور میں آپ کے اس مرید کے پاس پہنچا اور اس سے اپنے سوال کا جواب چاہا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت خواجہ قصوری فقیر بھی ہیں اور عالم متبحر بھی۔ تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص آپ کے پاس پہنچا اور اپنا سوال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ

” فلاں روز تیرے شہر میں فلاں شخص کو سوتے میں چور قتل کر دیں گے۔ صبح جب اس کا جنازہ اٹھا یا جائے گا تو اس کے جنازے پر ایک سبز پوش گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا۔ یہ سوال اس سبز پوش سوار سے کرنا۔ وہ شخص واپس شہر پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ رات کو ایک شخص سوتے میں چوروں کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے اور اب اس کا جنازہ تیار ہے۔ وہ شخص بھی جنازے میں شریک ہو گیا۔

نماز تیار تھی کہ ایک سبز پوش گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ادھر آ نکلا اس کا رخ بھی لوگوں کی طرف تھا۔ سب نے سمجھا کہ یہ شخص نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ سب رک گئے۔ جب وہ آگیا تو سب نے مل کر اسے امامت کے لیے آگے کھڑا کیا۔

نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا کہ روانہ ہو۔ معاً وہ شخص جو منتظر تھا آگے بڑھا اور اپنا سوال پیش کیا۔ سبز پوش نے سن کر کہا کہ !

” شہیدوں کا مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ جنازہ میرا ہے !“

یہ کہہ کر اس نے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔  
وہ شخص شہید ہونے والے کو پہچانتا تھا۔ اس نے جب اسے اپنے سامنے منکلم  
دیکھا تو حیران رہ گیا۔

پھر وہ سبز پوش بولا کہ

” علما اور سادات کے مراتب کا مجھے علم  
نہیں ہے۔“

یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ اور جدھر سے آیا تھا ادھر روانہ ہو گیا اور لوگوں  
نے اسے اُن واحد میں افق کی گہرائیوں میں غائب ہوتے دیکھا۔

❖

ایک صوبے دار نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ قصوریؒ کو ایک عریضہ لکھا اور راجے کے  
ایک رشتہ دار کی شکایت کی :

” یا حضرت ! راجے کا فلاں رشتہ دار مجھے  
بے حد تنگ کرتا ہے اس کے ظالمانہ رویہ  
سے باطن میں بھی کچھ خصل پڑتا ہے۔“

آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ :

” ہمیں بھی ایک افغان تنگ کرتا ہے اس

کی ایذا رسانی حدِ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔

کوئی اذیت اس نے اٹھا نہیں رکھی !

الحمد للہ کہ نسبت میں چنناں فرق نہیں،

بلکہ فلاں فلاں روز ہمیں بیت المعمور

میں لے جایا گیا وہاں لاتعداد فرشتوں

کی جماعت کو نماز پڑھائی۔ لیکن یہ مثر

ہمارے صبر کا ہے کہ ہم اس موزی

افغان کی ایذا رسانیوں کو صبر اور خاموشی

کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، تم

بھی صبر کرو اور شکوہ شکایت نہ کرو۔

ان شاء اللہ مع الصابریں ہ

بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے

ساتھ ہے ان شاء اللہ تمہیں بھی یہ مقام

حاصل ہو جائے گا۔“

جن دنوں آپ وہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث کی تحصیل میں مصروف تھے تو آپ کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی شریکِ درس ہوا کرتے تھے ان کا نام بارک اللہ تھا۔

آپ مولوی صاحب سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب آپ حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلویؒ کے دست مبارک پر بیعت کر لیں۔  
مولوی صاحب ہر مرتبہ ٹال جاتے اور فرماتے کہ اب تو نہیں اُسُورہ اُوں گا تو ضرور بیعت کروں گا۔

آخر ایک روز آپ نے فرمایا :  
"مولوی صاحب ! فقیر کو آپ سے  
وہابیت کی بو آتی ہے"

حضرت مولانا لٹھیؒ فرماتے ہیں کہ خواجہ قسوری و ام المصنوریؒ کو ابتدا میں ایک ہندو بچے سے الفت ہو گئی تھی۔ آپ کی محبت نے وہ اثر دکھایا کہ وہ اپنے والدین سمیت حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ وہ عرض کیا کرتا تھا کہ

"قبیلہ ! میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔"  
آپ فرمایا کرتے کہ

"ہم تمہیں وہلی لے چلیں گے وہاں بیعت  
کریں گے۔"



اتفاق سے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔

اور اس کے بعد جب حضرت خواجہ قصوریؒ و ہلی تشریف لے گئے تو قطب زماں  
حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلویؒ کے خلیفہ حضرت مرزا عبدالغفور صاحبؒ سے اس  
ہندو بچے کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ اس طریقہ عالیہ میں زندہ اور مردہ میں کوئی فرق نہیں  
سب برابر ہیں کسی کو محرومی نہیں۔ لیکن کاکشس وہ داخل طریق ہو جاتا۔  
یہ سن کر حضرت مرزا صاحبؒ مراقبے میں گئے۔ فقورؒ ہی دیر بعد سر اٹھایا، اور  
فرمانے لگے کہ وہ بچہ آیا تھا اور داخل طریق ہو گیا۔ اس کی شکل ایسی تھی اور اس طرح  
کا لباس پہنے ہوئے تھا۔

آپ نے فرمایا۔ درست ہے اس کا لباس اور حلیہ یہی ہے !



مولانا محمد علی مرحوم سکندہ کھر بیڑنے اپنے والد مرحوم کے ایک پر بھائی  
کے حوالے سے بیان کیا کہ موضع بھینی نزد شرق پور کے ایک امام مسجد کو حضرت  
خواجہ قصوریؒ نے چالیسویں وغیرہ کے ختم کا کھانا کھانے سے منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ یہ  
حرام تو نہیں ہے لیکن تمہارے لیے منع ہے۔  
اتفاق یہ ہوا کہ وہاں منبر دار صاحب کے گھر میں مرگ ہو گئی۔ انہوں نے ختم کے لیے  
امام صاحب کو بلا یا۔ ختم کے بعد مولوی صاحب کو کھانے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے  
ہزار انکار کیا لیکن منبر دار صاحب نے زبردستی کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھانے کی دیر  
تھی کہ امام صاحب کی بیانی جاتی رہی۔ ادھر حضرت خواجہ قصوریؒ کا انتقال ہو چکا تھا

امام صاحب بہت گھبرائے۔

آخر انہیں پتہ چلا کہ حضرت خواجہ قصوریؒ کے صاحبزادے حافظ شاہ عبدالرسولؒ بھی صاحب کرامت بزرگ ہیں اور حضرت خواجہ قصوریؒ کے جانشین بھی ہیں۔ امام صاحب حاضر خدمت ہوئے اور حضرت خواجہ قصوریؒ کی حکم عدولی کا واقعہ بیان کیا۔ صاحبزادہ صاحب نے مزار اقدس پر حاضر ہو کر مراقبہ کیا اور پھر مولوی صاحب سے فرمایا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئے گی لیکن پھر وہی شرط ہے کہ مرگ والوں کے گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ اللہ کے فضل سے مولوی صاحب کی بینائی عود کر آئی مگر چند ماہ کے بعد وہاں پھر مرگ ہوئی۔

مولوی صاحب کو معلوم ہوا تو خاموشی سے گاؤں سے نکل گئے تاکہ پھر حکم عدولی کی نوبت نہ آئے۔

تھوڑی دُور گئے تھے کہ پکڑے گئے۔

زمیندار صاحب نے لاکر ختم کے لیے بٹھایا اور بعد ختم کے مجبور کیا کہ کھانا کھا کر جائیں جب امام صاحب نے انکار کیا تو انہوں نے پوچھا کیا یہ کھانا حرام ہے؟ امام صاحب بے بس ہو گئے اور کھانا کھا لیا۔ پھر بینائی ختم ہو گئی۔

ادھر صاحبزادہ صاحب بھی مالکِ حقیقی سے جا ملے تھے۔ پھر یہ امام صاحب کبھی فقور شریف نہ گئے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔

۶ ستمبر ۱۹۶۵ کو جب بھارت نے نہایت عیاری کے ساتھ اپنی جارحیت کا ثبوت دیتے ہوئے وطن عزیز کی سرحدوں پر چوروں کی طرح حملہ کیا تو قصور بھی محاذ جنگ بن گیا۔ دشمن رات کی تاریکی میں قصور پر قبضہ جانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن پاکستان کی جبری اور بہادر فوجوں نے عیار دشمن کا ہنس ہنس کر کے رکھ دیا۔ اس محاذ پر پاکستانی فوج کے ایک میجر خادم حسین شہید بھی تھے۔

حضرت خواجہ قصوری میجر خادم حسین شہید کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ :

”لہشیار رہو، دشمن اس طرف پیش قدمی کرے گا۔“

میجر خادم حسین شہید نے پوچھا :

”آپ کون ہیں؟“

جواب ملا کہ

”میرا نام خواجہ غلام محی الدین قصوری

دائم الحصوری ہے۔“

قصور کی خلقت گواہ ہے کہ میجر خادم حسین شہید آپ کے مزار پر حاضر ہوئے

نیاز بھی دلائی اور پھر محاذ جنگ پر روانہ ہو گئے۔

آپ سپلائی میں تھے۔ اور فوج کو اسلحہ پہنچا رہے تھے کہ دیکھا ایک جگہ

پاکستانی توپچی شہید پڑا ہے اور دشمن کے ٹینک اس طرف پیش قدمی کر رہے ہیں

میجر خاوم حسین کے فرانس میں یہ بات شامل نہ تھی لیکن انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھا۔ فوراً اپنی گاڑی سے نیچے گھسے اور توپ سنبھالی، دشمن کے بڑھتے ہوئے ایک ٹینک کو اڑا دیا۔ وہ اسی جگہ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس جنگ کے دوران توپ کا ایک گولہ آپ کے مزار مبارک پر آکر گرا۔ قدرت خدا کی اس سے صرف بارہ وری شہید ہوئی لیکن مزار کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔

نظام الدین قصوریہ رسالہ دار نے حافظ غلام مصطفیٰ خاں صاحب کو ایک خط لکھا تھا اس میں تحریر کرتے ہیں کہ جن دنوں ہمارا رسالہ کابل کے پہلے ہنگامے میں جلال آباد آیا تھا۔ ایک روز میری طبیعت میں سخت وحشت تھی گو یا موت آنکسوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ رات نو بجے میرے دل میں خیال آیا کہ کسی کا وسیلہ تکلیف میں کام آتا ہے۔ مگر اس حالت میں یہاں کوئی کسی کا حامی نہیں، اسی حالت میں آپ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اگر تمہارا کچھ کام ہے تو بتاؤ۔ میں نے عرض کی کہ کام تو عرض کروں گا مگر آپ تو دنیا سے انتقال فرما گئے تھے اب کیسے تشریف لے آئے ہیں۔ فرمایا تو اس سے واقف نہیں۔ اپنا کام بتا۔ میں نے عرض کی کہ موت کے منہ میں گرفتار ہوں اور سخت مالویس ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے خیر ہے وظیفہ یا سلام پڑھا کر۔ جب میری آنکھ کھلی تو دل کو تسلی ہوئی اور خیر و عافیت سے دن گزرنے لگے۔

آپ کے کشف و کرامات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا لٹھیؒ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں قصور شریف میں صحرا کی طرف سے آتا تھا کہ اچانک چند عورتیں سامنے آگئیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔

جب وہ قریب سے گزرنے لگیں تو بولیں :  
 " یہ شخص مرد نہیں عورت ہے ۔ "

چنانچہ جب میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ نے از خود یہ قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ :

" حضرت شیخ سعدیؒ وجیہ و شکیں تھے۔ چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے یا چہرے کو گھونگھٹ میں چھپائے رکھتے تھے۔ سیاحت کے دلدادہ تھے، سیر کرتے کرتے آپ ملتان کی طرف اُنکلے۔ یہاں اچانک عورتوں کا ایک گروہ سامنے آیا، وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگیں :

" یہ تو کوئی عورت معلوم ہوتی ہے ۔ "

حضرت شیخ سعدیؒ نے فرمایا،

" یہ ملک نہایت بے شرم ہے ۔ "

اور پھر وہیں سے واپس ہو گئے ۔



حضرت مولانا غلام نبی لٹھیؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز قصور شریف میں قدمبوسی کو حاضر ہوا، جب رخصت ہونے لگا تو ارشاد ہوا کہ فلاں روز پھر آنا۔

فقیر حسب الارشاد مقررہ وقت پر لاہور پہنچا، کیونکہ آپ ان دنوں لاہور میں تشریف فرما تھے معلوم ہوا کہ آپ سڑک کی طرف تشریف لے گئے ہیں وہاں جانے کا سبب یہ تھا کہ آپ ایک شخص سے ناراض تھے۔ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی۔ حضور نے اسے حکم دیا کہ خواجہ قصوری تم سے ناراض ہیں۔ جا کر ان کو راضی کرو۔

چونکہ شخص مذکور نابینا تھا۔ بڑھا پا بھی طاری تھا اور چیل پھر نہ سکتا تھا اس نے بصد عجز و انکسار آپ کو وہاں بلا بھیجا۔ اور آپ اس شخص سے راضی ہو گئے۔



ایک مرتبہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اور عرض کی کہ غریب نواز پسیانی نہیں ہوتی کچھ پکی پکانی مرحمت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر پکی پکانی چاہتے ہو تو قصور آنا۔

پکی پکانی مانگنے والا قصور میں حاضر نہ ہوا۔ البتہ حضرت مولانا غلام نبی لکھنوی علیہ الرحمۃ نے کسی اور شخص کو اس کی جگہ بھیج دیا اور جاتے ہی اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔

حکیم خیر الدین صاحب امرتسری اور متعدد دوسرے عقیدت مندوں کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ قصوری حکیم محمد بخش مرحوم کے گھر ایک دعوت پر تشریف لے گئے۔ حکیم صاحب جب خواجہ قصوری کے ہاتھ دھلانے لگے تو عرض کی کہ ایک جوان لڑکا ہمارے خاندان سے اس مرض میں مبتلا ہے کہ جب نقارے کی آواز سنتا ہے تو بے اختیار ناچنے اور

کو دئے لگتا ہے خواہ اسے کس قدر مضبوط ہاتھوں سے پکڑا جائے یا باندھ دیا جائے مگر وہ ہاتھ پاؤں کھلوا کر رخص کرنے لگتا ہے۔ بہت علاج کروایا ہے مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔

آپ نے فرمایا کہ فقیر کے ہاتھوں اور کھلی کاپانی اس لڑکے کو پلا دو، اور ایک نقارچی کو بلاؤ کہ وہ نقارہ بجائے۔

لڑکے کو پانی پلایا گیا اور طبلہ نواز نے بڑی کیفیت سے نقارہ بجایا، لیکن لڑکے پر کوئی اثر نہ ہوا۔

آپ نے فرمایا کہ اسے دھرو نکل لے جاؤ۔ یہاں لوگ نقاروں پر ناچتے اور رخص کرتے ہیں۔ چنانچہ لڑکے کو وہاں بھی لے جایا گیا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔

اللہ تعالیٰ تصرفِ سنت اور قلعِ فتح بدعتِ اسی کا نام ہے۔

حضرت قبلہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب بیربل والا نے حضرت خواجہ صاحب غلام بیگم کی زبانی بیان کیا کہ ایک شخص کو دیوانے کتنے کے کاٹنے سے دیوانگی کا مرض لاحق ہوا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب مریض پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔

آپ نے اس پر تین دفعہ پھونک ماری۔ وہ فوراً اچھا بھلا ہو گیا۔  
 مولانا صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ قبلہ آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا  
 فرمایا۔ کچھ نہیں یونہی پھونک ماری تھی۔ سبحان اللہ۔ یہی معنی ہیں اس کے کہ  
 گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

حاجی امام بخش ساکن اچھرہ لاہور نے بیان کیا کہ مزنگ میں آپ کا قیام تھا کہ  
 ایک ہندو حاضر خدمت ہوا۔ عرض کی کہ میری بیوی کو آسیب ہے وہ بے ہوش و حواس  
 برہنہ بیٹھی رہتی ہے۔ جو کوئی صاحب عزت آتا ہے اس کا علم کچھ تاثیر نہیں دکھانا  
 اور اسے خصیف ہو کر لوٹنا پڑتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ کیا تو اپنی عورت کو ہمارا پس خوردہ پانی پلاوے گا؟  
 اس نے عرض کیا۔ ضرور پلاؤں گا۔

آپ نے فرمایا۔ جا جلدی سے پانی لے کر آ۔

جب وہ پانی لا رہا تھا تو دور سے ہی آپ نے فرمایا کہ اب پانی پس خوردہ  
 ہو گیا ہے اسے جا کر اپنی عورت کو پلا دو۔

وہ شخص واپس گھر گیا۔ ایک پر گزر جانے کے بعد واپس لوٹا۔ بڑا خوش و خرم



تھا۔ کہنے لگا کہ جو نہی میں پانی لے کر گھر پہنچا۔ اور وہ جیتا جو کبھی حاضر نہیں ہوتا تھا فتنہیں دے کر بولا کہ میں جاتا ہوں یہ پانی مجھے نہ پلاؤ۔ مگر میں نے بہ زور عورت کو بکڑ کر پانی پلا دیا۔ وہ پانی پینے کے بعد فوراً ہی ہوش میں آگئی اور کپڑے پہن کر بھلی چنگی بہ کر بیٹھ گئی۔

حافظ عبدالرحمن صاحب قصوری نے ڈیرہ اسماعیل خاں کے دوستوں کی زبانی بیان کیا کہ ایک دینی مسئلے کے اظہار پر ڈیرہ کے نوابوں اور افتخاروں نے آپ کی تعظیم و تکریم میں عداوت کی کر دی۔ یہ بات اس لیے ہوئی کہ انہیں اس مسئلے پر آپ سے اختلاف رائے تھا۔ آپ نے اپنے علم کے وقار اور اعزاز کی خاطر کئی برس تک ڈیرہ کا سفر موقوف رکھا۔ ان لوگوں پر سخت تکالیف عاید ہوئیں۔ حضرت خواجہ قصوری مرنگ لاہور میں تشریف فرما تھے کہ نواب غلام حسن خاں اور ڈیرہ کے دوسرے عمائدین حاضر ہوئے اور اپنی تقصیر کی معافی چاہی اور بڑی انجنا و تمنا سے عرض کیا کہ آپ ڈیرہ کا سفر فرمائیے۔

آپ نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے بھی عزیز رکھے اور بھلے دن دکھلائے۔

بعضوں نے اپنے دل میں کہا کہ پہلے سے زیادہ عزیز ہونا تو ناممکن ہے! آپ نے کچھ ششیر نبی دے کر سب کو رخصت کیا۔

جو نہی وہ لوگ واپس آئے، حاکم لاہور نے انہیں ایک مہم پر مامور کیا۔ اس مہم

میں انہیں زبردست کامیابی ہوئی اور دشمن کالاکشوں روپے کا سامان نقد و جنس کی صورت میں ان کے ہاتھ لگا۔ حاکم نے سب کچھ انہیں بخش دیا اور یوں ڈیرہ تک پہنچتے پہنچتے یہ لوگ مالا مال ہو گئے۔



ایک مولوی صاحب حضرت صاحب سنگھ والوں کے مریدوں میں سے تھے وہ ایک مرتبہ مزنگ لاہور آئے۔ حضرت خواجہ قصوریؒ بھی مزنگ میں تشریف فرما تھے۔ مولوی صاحب نے التجا کی کہ نواب شیخ امام الدین سے مجھے ایک کام ہے آپ میرے لیے ان سے سفارش کر دیں یا سفارش نامہ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب! فقیر کی دولت مندوں کے پاس نہ تو آمد و رفت ہے اور نہ نوشت و خواند۔

مولوی صاحب کہنے لگے کہ آپ صاحبزادہ صاحب سے فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ دولت مندوں سے متنفر ہیں۔ مولوی صاحب نے اور تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا صبر کرو۔ تھوڑی دیر بعد نواب شیخ امام الدین حاضر خدمت ہوا۔ اور کچھ نذر پیش کی۔ آپ نے فرمایا۔ کہاں سے آنا ہوا؟

انہوں نے کہا کہ فلاں حاکم کی طرف جا رہا تھا پتہ چلا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور حاکم کے پاس جانے کا ذوق و شوق فراموش ہو گیا ہے!

آپ نے فرمایا۔ اچھا ہوا، آپ اُگئے، ان مولوی صاحب کا کچھ کام ہے کہ دیکھیے  
انہوں نے عرض کی۔ بسر و چشم !

❖

حضرت کا نواسہ صاحب زادہ سید محمد شاہ صاحب شوال ۱۲۹۶ھ میں سخت بیمار ہوا  
مولانا غلام دستگیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے مزار پر انوار کے قریب کھڑے  
ہو کر دعا کی کہ آپ کے نواسے کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اسی دن بعد  
از دوپہر حاجی بیلا حضرت کے مخلصوں سے کہنے لگے کہ حضرت خواجہ قصوریؒ مجھے خواب میں  
ملے اور فرمائے ہیں کہ سید محمدؒ نے کتنے روزے رمضان شریف کے توڑ دیئے ہیں  
یہ بیماری مواخذہ ہے اگر اُندرہ کے لیے توبہ کرے تو صحت ہو جائے گی۔

سید محمد صاحبؒ نے اعتراف کیا کہ ان سے یہ حرکت ہوئی تھی۔ پھر صدق دل سے  
تائب ہوئے اور صحت یاب ہو گئے۔

❖

حضرت مولانا غلام نبی لکھیؒ ہی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں قصور شریف سے  
واپس آ رہا تھا۔ میرے ہمراہ میرا ایک عزیز بھی تھا۔ دریائے جہلم کو عبور کرنا  
تھا۔ وقت زیادہ گزر گیا اور سورج سر پہ آ گیا۔ دریا کے پار آ کر ابھی ایک میل کی  
مسافت ہی طے کر پائے تھے کہ تمازت آفتاب سے تشنگی کا سخت غلبہ ہوا۔  
دور دور تک پانی کا کہیں نشان نہ تھا۔ پیاس نے دونوں کو نڈھال کر دیا۔ میرا  
عزیز کہنے لگا کہ

” ایک مرتبہ حضرت محمد سلیمانؑ تو نسوی کہیں سفر پر جا رہے تھے سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا۔ ساتھی بے حد پریشان ہوئے کہ اتنے میں ایک شخص ٹھنڈا شیریں پانی لے کر حاضر ہوا۔ اور سب کو پانی پلایا۔ تم بھی اپنے پیڑ لقیّت کے پاس سے آرہے ہو۔ کیا تم میں بھی کوئی کرامت ہے؟“

حضرت لٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی نے ابھی بات ختم بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک شخص کے پکارنے کی آواز آئی :

” میاں ! ٹھنڈا پانی موجود ہے پیئے جاؤ۔“

ہم اس آواز کی جانب لپکے۔ ٹھنڈا شیریں پانی پیا تو جان میں جان آئی جب ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا تو میں نے کہا۔ تم نے تو صرف واقعہ ہی بیان کیا تھا۔ خدا جانے وہ واقعہ کزرا بھی تھا یا نہیں لیکن ہمارے پیڑ لقیّت کی کرامت تم نے دیکھ ہی لی ہے۔

شنیدہ کے بود مانند دیدہ !

✦

ملفوظات کے مصنف لکھتے ہیں کہ

آپ کی نظر ہزار عمل سے افضل تھی۔ ایک مرتبہ کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ ایک برتن میں ہاتھ دھو رہے تھے کہ ایک شخص نے اکر عرض کیا کہ فلاں شخص کو سگ دیوانہ نے کاٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پانی (جسے آپ نے ہاتھ دھونے میں استعمال فرمایا تھا) اسے جا کر پلا دو۔ چنانچہ وہ پانی مریض کو پلا دیا گیا اور اسے آرام آگیا۔



نقل ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرما رہے تھے۔ آپ کے وعظ میں بے حد تاثیر تھی۔ لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے۔ مجمع میں مکمل خاموشی اور سکوت طاری ہوتا تھا۔ چنانچہ سامعین اسی حالت میں تھے کہ یکایک آسمان پر سیاہ بادل فیل بے زنجیر کی طرح دوڑنے لگے۔ سامعین بادل کا یہ رنگ دیکھ کر گھبرائے کہ بارش آیا چاہتی ہے۔ آپ نے مجلس کا رنگ بھانپ لیا اور فرمایا کہ

ایک مرتبہ حضرت غوثِ اعظمؒ وعظ فرما رہے تھے کہ ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ معلوم دیتا تھا کہ اب برساکہ برساکہ برسا۔ خلقت گھبرائی اور گھروں کو جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت غوثِ اعظمؒ نے آسمان کی طرف رخ مبارک کیا اور فرمانے لگے کہ میں جمع کرتا ہوں اور تو انہیں پر اگندہ کرتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ بادل چھٹ گئے اور لوگ پورے اطمینان کے ساتھ وعظ سننے لگے۔

حضرت خواجہ قصوری داممُ الحضورؒ کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کی مجلس پر سے بھی بادل فی الفور چھٹ گئے اور لوگ مطمئن ہو کر وعظ سننے لگے۔



نقل ہے کہ

ایک مرتبہ اس زور اور کثرت سے بارش ہوئی کہ لوگوں کا سخت نقصان ہوا فصلوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ بارش تھی کہ ٹھمنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ لوگ

سخت بد حال اور پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ لوگ  
 حسرت و یاس سے آسمان کی طرف دیکھتے اور خاموش رہ جاتے۔ بارش کا اس قدر  
 زور تھا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ تباہ کر کے ہی دم لے گی۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت عالیہ  
 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک خلقت بارش کی کثرت اور تباہی سے سخت  
 پریشان ہے و عافریائے کہ بارش بند ہو جائے۔  
 آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور انگشت مبارک سے کچھ اشارہ  
 کیا یا کچھ لکھا (اس میں راوی کو شک ہے) اس کے ساتھ ہی بارش بالکل ختم گئی۔

❖

آپ کی ایک بڑی واضح کرامت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اولاد کے حصول کے لیے  
 تعویذ مانگتا تو تعویذ دیتے وقت اگر زبان مبارک سے نکل جاتا کہ اسے چاندی کے  
 خول میں بند کر کے رکھنا تو معلوم ہو جاتا کہ سائل کے یہاں دختر کی ولادت ہوگی۔  
 اور اگر فرماتے کہ اسے جست کے خول میں رکھنا تو یہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت  
 ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے خلیفہ اعظم حضرت للہیؒ کے توسط سے تعویذ  
 مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چاندی کے خول میں رکھنا۔

حضرت مولانا للہیؒ نے عرض کی کہ حضور اسے اولادِ نرینہ کی خواہش ہے۔  
 فرمایا کہ اب تو چار ماہ گزر چکے ہیں۔

چنانچہ اس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔

✽

حالاتِ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ قصوری دایم الحضورؒ سفر میں تھے۔ اور اپنے عم بزرگوار کی کوئی کتاب بغرض مطالعہ ساتھ لیتے آئے تھے۔ اثنائے سفر وہ کتاب کسی طرح گم ہو گئی۔ ادھر عم بزرگوار کا خط آیا کہ فلاں کتاب تمہارے پاس ہے بھیجو۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ کتاب کتب خانہ میں ہے تلاش کریں۔ حالانکہ معلوم تھا کہ کتاب گم ہو گئی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے

”یا جامع الناس لیوم لاریب فیہ  
ارود علیٰ اضالعی“

پڑھنا شروع کیا۔

کچھ دن کے بعد عم بزرگوار کا خط آیا اس میں تحریر تھا کہ کتاب کتب خانہ سے مل گئی ہے۔

✽

حضرت مولانا غلام نبی اللہیؒ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ قصور کے علاقے میں سخت فحط پڑا۔ رات کو سوتے تھے کہ ایک مجذوب حضرت خواجہ قصوریؒ کی خدمت میں حاضر آیا اور کہنے لگا۔

”یا حضرت! بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو مل جائے۔“

آپ نے فرمایا

”ذرا توقف کرو!“

کچھ دیر بعد وہ پھر بولا

”قلبہ! جلدی کریں۔ بھوک سے بے حال ہو رہا ہوں۔“

آپ نے ارشاد فرمایا۔ ”میاں! ذرا ٹھہرو۔“

اسی وقت ایک شخص ایک طشت اٹھائے پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا کہ یہ

کھانا فلاں شخص نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔

آپ نے نصف کھانا اس مجذوب کو اور نصف مجھے عطا فرمایا۔

کھانا لانے والے نے یہ بھی بتایا کہ اس کا مالک سو رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی

دل میں خیال گزرا کہ ہم تو کھانا کھا چکے ہیں خدا معلوم حضرت خواجہ صاحب کے گھر میں کچھ

پکا ہے یا نہیں اور رویش بھی بھوکے سو گئے ہوں گے۔ اسی وقت کھانا تیار کر دیا

آپ کی خدمت عالیہ میں روانہ کر دیا۔

❖

حضرت شہی بیان فرماتے ہیں کہ

میں آپ کی مجلس فیض منزل میں حاضر ہوتا تھا اور کچھ فاصلے پر بیٹھتا تھا۔ اگر میں

کچھ عرض کرتا چاہتا اور آپ کو کچھ جواباً فرمانا ہوتا تو ہمیشہ اتفاقاً فرماتے تھے۔

اور یوں پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔



ملفوظات شریف میں ہے کہ

کشمیر کا ایک صوبیدار امام دین نامی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ رخصت کے وقت اس نے مصافحہ کرنے کو ہاتھ بڑھایا تو آپ کی نظر ہاتھ میں پہنے ہوئے سونے کے کڑوں پر پڑی۔ فرمایا کہ یہ نہ پہنا کرو۔ مردوں پر اس قسم کا زیور پہننا حرام ہے۔

صوبیدار نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سونے کے ایسے زیورات نہیں پہنے گا۔  
پھر وہ رخصت ہو گیا۔

دوسرے روز پھر حاضر ہوا تو سونے کے کڑے اتارنے کی بجائے انہیں اوپر کو چڑھایا تاکہ وہ حضور کی نظروں سے چھپ جائیں۔ رخصت کے وقت جب اس نے مصافحہ کرنا چاہا تو کڑے نیچے کھسک آئے۔  
آپ نے یہ دیکھا تو بہت خفا ہوئے اور فوراً چلے جانے کا حکم دیا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور معافی مانگی۔

آپ کے عقیدت مندوں میں ایک شخص بے حد غریب اور مفلس تھا۔ اسے آپ کی دعوت کرنے کا بے حد شوق تھا لیکن اپنی غربت و افلاس کو دیکھ کر وہ دل گرفتہ ہو جاتا تھا۔

آخر ایک روز اس نے آپ کی دعوت کی اور دعوت میں صرف گاجراہال کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بڑے شوق سے تناول فرمایا اور اس کے حق میں

دعاے خیر کی اور فرمایا کہ

" انشاء اللہ یہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔"  
چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ شخص فارغ البال ہو گیا۔

❖

آپ کے مرید غلام حسین خاں ترین (ڈیرہ اسماعیل خاں) نے حضرت خواجہ صاحبؒ کو اولاد زینہ کے واسطے بذریعہ خط عرض کیا۔  
آپ نے اسے یہ رباعی لکھ کر بھیج دی جس سے بچوں کے نام بھی مع دعا کے ظاہر ہیں :۔

شاہ نواز ست متسبول خدا  
لعل بود گوہر کان صفا  
باد بہ سروار سعادت قریں  
باد عبید اللہ عبادت گزیں  
لطف آلم باد بہ لطف اللہ خاں  
جملہ برادرز بلا در آماں

خدا کے فضل سے اس کے یہاں پانچ فرزند پیدا ہوئے۔

❖

ایک شخص آپ کی زیارت کے لیے قصور کو روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک اور شخص ملا۔ پہلے شخص نے اس سے قصور جانے کا مدعا بیان کیا اور کہا کہ اگر حضرت خواجہ صاحب کو کوئی پیغام دیتا ہو تو بتا دیجئے۔ وہ شخص بولا کہ یہ عرض کرنا کہ فلاں شخص نے اپنے لڑکے کو آپ کے حلقہ مریدین میں اس لیے داخل کرایا تھا کہ لڑکا خدا اور اس کے رسول کا راستہ جان لے اور اس کی عاقبت سنور جائے لیکن وہ تو دنیا کے حال میں لگن ہے اور ہم سے بھی بیگانہ ہو گیا ہے۔

راستے میں آگے چل کر وہ شخص اس شہر سے گزرا جہاں یہ لڑکا تھا نیدار تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی ملتا چلے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچا اور قصور جانے کا مدعا بیان کیا اور کہا کہ حضرت خواجہ صاحب کے لیے کوئی پیغام ہو تو دے دو۔

وہ بولا۔ میرا سلام عرض کرنا۔ عدم فرصت کے سبب حاضر ہونے سے قاصر ہوں چنانچہ وہ شخص قدم بوسی کے لیے قصور پہنچ گیا۔ لیکن سوئے اتفاق سے باپ بیٹا دونوں کے پیغام دینا بھول گیا۔ چار دن کے قیام کے بعد واپس لوٹنے لگا تو اجازت کے لیے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔

آپ نے فرمایا کہ میاں کسی کا پیغام پہنچانا فرض ہوتا ہے بھولنا نہیں چاہئے۔ تب اس شخص نے ان دونوں اشخاص باپ بیٹا کے پیغام حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیے۔

آپ سنتے ہی فوراً مراقبے میں چلے گئے۔ اور فرمایا کہ اس شخص کا پیغام پھر دہراؤ۔ اس نے پیغام دہرا دیا۔ آپ نے فرمایا۔ ذرا پھر دہرانا

اس نے پھر دُہرایا۔

اسی طرح تیسری مرتبہ آپ نے پیغام دُہرانے کو کہا اور خود مراقبے میں لے گئے۔  
ابھی تیسری مرتبہ پیغام پورا نہیں دُہرایا گیا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی لڑکا جس کے  
والد نے شکایت کی تھی فقیرانہ شکل میں چلا آتا ہے اور پینچابی کے وہ اشعار جو  
اس نے حضرت خواجہ صاحبؒ کی شان میں لکھے تھے بلند آواز سے پڑھ رہا ہے  
حضرت خواجہ صاحبؒ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آگیا ہے۔ تم کہتے تھے، کہ یہ  
دنیا میں بھینسا ہوا ہے۔ لیکن ذرا اس کی کیفیت تو دیکھو کیا دنیا دار لوگوں کی حالت  
ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔

ایک مرتبہ نصف شب کے قریب مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے کہ بازار میں  
ایک ہندو عورت ملی جو بار بار یہ مصرع دُہرا رہی تھی ع  
جو دم جیواں سو گنگا جاں  
آپ نے اس کا یہ ورد سنا تو اس کی حالت پر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ  
کیوں نہیں کہتی کہ

جو دم جیواں سو لا اللہ

آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی اور اس کے جسم کے ہر باں  
سے ذکر جاری ہو گیا۔ حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔

ہندوؤں نے اس کی لاش کو جلانا چاہا لیکن آگ اسے نہ جلاتی تھی۔ انہوں  
نے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے مجبوراً وہ حضرت خواجہ صاحبؒ کی خدمتِ اقدس

میں حاضر ہوئے۔

آپ نے اس کی لاش کے لیے غسل کا حکم دیا اور اس کے بعد اس کے جسد کو قبرستان میں دفن دیا گیا۔



ملفوظات میں لکھا ہے کہ !

آپ کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ بیان کیا کرتا تھا کہ ابتدا میں اسے خدا طلبی کا شوق تھا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور پورے بارہ برس تک شب و روز ان کی خدمت میں مشغول و مصروف رہا اور شادی بھی نہ کی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شادی سلوک کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اسی طرح بارہ سال گزر گئے یہاں تک کہ وہ بزرگ انتقال کر گئے۔ اور وفات سے قبل ایک دوسرے بزرگ کے سپرد کر دیا۔ آٹھ سال تک شب و روز ان کی بھی خدمت کی اور یوں زندگی کے بیس سال بیت گئے۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے قصور شریف کا راستہ بتایا اور خود دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔

پھر وہ شخص قصور میں حضرت خواجہ قصوری کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور خدا کے فضل سے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔



نقل ہے کہ آپ کے دور میں ایک سکھ بھی آپ کی محفل میں آکر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ انتہائی مفلوک الحال اور مفلس تھا۔ اس پر طرہ یہ کہ وہ کثیر الاولاد بھی تھا۔ اکثر فاتہ کش تک نوبت رہتی تھی۔ غربت کی وجہ سے اس کی جوان لڑکیاں گھر میں کنواری بیٹھی ہوئی

تھیں اور یہ پریشانی اس کے لیے سومانِ روح بنی ہوئی تھی کیونکہ کوئی شخص غربت کے سبب اس کی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ قبول نہ کرتا تھا۔

وہ آپ کی مجلس میں اس نیت سے آتا تھا کہ اپنے لیے حضرت خواجہ صاحب سے دعا کرائے تاکہ اس کی مفلسی اور غربت دور ہو۔ مگر آپ کی پُر جلال شخصیت اور مجلس کا رنگ دیکھ کر وہ اس قدر مرعوب ہو جاتا کہ عرضِ مدعا کا حوصلہ نہ پاتا اور کچھ دیر بعد خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا۔

اسی طرح کئی روز گزر گئے۔

آخر ایک دن آپ نے اس پر مہربانی فرمائی اور پوچھا کہ لوگ آتے ہیں اپنا اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ کئی دن ہو گئے تم مجلس میں حاضر ہوتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، لیکن کہہ نہیں پاتے۔ مہماری کیا غرض ہے بیان کرو۔

سکھنے آپ کی یہ مشفقانہ گفت گو سنی تو اسے کچھ حوصلہ سوا۔ اس نے عرض کیا کہ واقعی میں اپنا ایک مدعا کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی معظّم و محترم شخصیت سے اس قدر مرعوب ہوں کہ کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں پاتا۔ اب آپ نے فرمایا ہے تو مجھے لب کشائی کی جرأت ہوئی ہے۔

پھر اس سکھ نے اپنی غربت و مفلسی اور بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ کا ذکر کیا اور کہا کہ جوان لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہیں۔ لڑکے والے قیمتی جہیز طلب کرتے ہیں میرے پاس بچھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ میری یہ مشکل آسان ہو۔ آپ نے اس کا یہ ماجرا سنا تو بے حد افسوس کیا۔ پھر اسے تسلی دی۔ اور خادم کو قلم و دوات لانے کا حکم دیا۔

آپ نے ایک تعویذ لکھا اور سکھ سے فرمایا کہ صبح طلوع آفتاب کے وقت اسے اپنی گپڑی میں باندھ لینا اور مشرق کی سمت روانہ ہو جانا۔ کہیں رکتا نہیں۔ یہ فرما کر آپ نے سکھ کو رخصت کیا۔

دوسرے روز طلوع آفتاب کے وقت سکھ نے تعویذ اپنی گپڑی میں باندھا اور مشرق کی سمت روانہ ہوا۔

کافی دور نکل گیا۔ تو اسے دو شخص ملے جنہوں نے ہاتھوں میں کلہاڑیاں پکڑ رکھی تھیں۔ وہ ان کے پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے اسے لٹکارا اور کہا کہ یہیں کھڑے رہو۔

سکھ گھبرا یا۔ ڈرتے ڈرتے سکھ نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایک مردہ جانور کے ڈھانچے کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اپنے بھروسے میں اسے باندھ کر اٹھا جاؤ۔

سکھ نے اس خوف سے کہ مبادا حکم عدولی کرنے پر مجھے یہ ہلاک کر دیں۔ اس مردار کے ڈھانچے کو بھروسے میں باندھ لیا۔

پھر ان دونوں نے اسے کہا کہ اسے گھر لے جا کر کھولنا۔ اگر راستے میں کھولا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔

وہ سکھ لرزاں و ترساں مردار کی گھٹڑی سر پر اٹھائے واپس گھر کو چلا۔ کچھ دور اگے نکل کر اس کے حواس بجاں ہوئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو انہی اشخاص کو اپنے چپ و راست موجود پایا۔ وہ پھر گھبرا گیا اور قدم تیز تیز اٹھاتا ہوا گھر جا پہنچا

اور گھڑی صحن میں دے ماری۔

بچوں نے سمجھا کہ ان کا باپ ان کے لیے کوئی چیز لایا ہے۔ وہ گھڑی کی طرف  
پکے تاکہ اسے کھول کر دیکھیں۔

سکھنے کہا کہ اسے ہاتھ مت لگانا۔

مگر بچوں نے گھڑی کو زبردستی کھول دیا۔

خدا کی قدرت سے وہ مردہ جانور کا ڈھانچہ سونے میں بدل چکا تھا۔ گھر کے تمام  
افراد یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔

سکھ خود بھی اتنا سوتا دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ لیکن پھر فوراً ہی معاملے  
کی تہ کو پہنچ گیا کہ یہ حضرت خواجہ صاحب ہی کی کرامت ہے۔

آخر اس سکھ کی فارغ البالی زباں زورِ عام ہوئی تو لوگوں نے حضرت خواجہ  
صاحب سے بھی اس کا ذکر کیا۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ

”فقیر نے اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا۔ مردار

کو مردار وے دیا ہے کیونکہ دنیا مثل مردار

کے ہے اور اس کا طالب مانند کتے کے۔“



ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے ایک شخص کو نماز تراویح میں  
قرآن مجید سننے کے لیے مقرر فرمایا۔ خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ چاند نظر آنے  
سے صرف ایک روز قبل وہ حافظ صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ اور کوئی شخص ایسا نہ تھا۔



جو نماز تراویح میں قرآن مجید سنا سکتا۔ آپ کو صورت حال سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو حافظ صاحب آجائیں گے۔

مشرق پور کے نزدیک فیض پور میں آپ کے ایک مرید رہتے تھے وہ بھی قرآن کے حافظ تھے۔ آپ نے انہیں خواب میں شرفِ زیارت بخشا اور انہیں قصور آنے کا حکم دیا۔

دوسرے روز مغرب کے قریب وہ حافظ صاحب قصور شریف پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا۔

”لومیاں! وہ حافظ صاحب آگئے ہیں“

اور پھر بعد میں حافظ صاحب نے دوسرے عقیدتمندوں سے خواب والا سارا واقعہ بیان کیا۔

حضرت مولانا اللہیؒ بیان فرماتے ہیں کہ

ایک دفعہ علاقہ راوی کے بعض اشخاص کو آپ نے خواب میں زیارت بخشی۔ ان لوگوں کو آپ کی ملاقات اور زیارت کا شوق دامن گیر ہوا۔ تو تلاش میں چل نکلے۔ آخر تلاش بسیار کے بعد وہ سب قصور آ پہنچے اور جب پابوسی کے لیے حضور کی محفل فیض منزل میں حاضر ہوئے تو باوجود ایک عرصہ گزر جانے کے آپ نے سب کو پہچان پایا اور ایک ایک کا نام لے کر ان سے ملے اور ان کا حال دریافت فرمایا۔ ان اشخاص کے نام یہ ہیں :

۱۔ مولوی قادر بخش صاحب دھولری

۲۔ مولوی علاؤ الدین المعروف علاول دین موضع بستی پیراں نزد کمالیہ

۳۔ میاں شاہ محمد خوبیا نزد بستی پیراں کمالیہ

یہ تمام اشخاص حلقہ مریدین میں داخل ہوئے۔ آپ نے انہیں بیعت کیا مگر ایک شخص  
شخص کی بیعت نہ لی اور فرمایا

” عزیز! تمہارا فیض حضرت خواجہ تونسویؒ

کے پاس ہے۔“

انہی مریدین کے اصرار پر آپ اگلے سال علاقہ راوی تشریف لے گئے متعدد  
لوگوں نے اس موقع پر آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور یہاں آپ کی  
ملقات مائی صفوراؒ سے بھی ہوئی۔

❖

ایک مرتبہ آپ اپنے خلیفہ اعظم حضرت مولانا لکھی کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت

خواجہ لکھیؒ سے لوگوں نے عرض کی کہ یا حضرت! ہمارے کنویں کا پانی تلخ بھی ہے اور

کم بھی۔ حضور کرم فرمائیں تو یہ تکلیف دور ہو جائے۔

آپ نے یہ سنا تو اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ حکم دیا کہ پانی کا ایک ڈول نکالا

جائے۔

پانی کا ڈول نکالا گیا۔

آپ نے اس میں سے چلو بھر پانی لے کر اپنے منہ میں ڈالا اور کھلی کر کے سارا پانی اس ڈول میں واپس ڈال دیا۔ پھر حکم دیا کہ اس ڈول کا پانی کنویں میں انڈیل دیا جائے۔ جب پانی کنویں میں انڈیلا گیا تو اس کے بعد نہ تو اس کا پانی تلخ رہا اور نہ کبھی اس میں کمی کی شکایت اُھلدا ہوئی۔

❖

ایک مرتبہ آپ ڈنگہ ضلع گجرات تشریف لے گئے۔

ایک جگہ کو دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک مسجد ہے اور یہاں

ایک کنواں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ نشان بھی دیتے جاتے تھے۔

آپ کا یہ کشف کچھ عرصہ بعد ظہور پذیر ہوا۔ یعنی واقعی اسی نشان زدہ جگہ پر ایک

مسجد اور ایک کنویں کی تعمیر ہوئی۔

لوگوں نے اس جگہ کا نام نہایت عقیدت و احترام کے طور پر یقین پور

رکھ دیا۔

حضرت مولانا لٹھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نواب شیر محمد خان ٹوانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دنوں آپ مزنگ لاہور میں تشریف فرما تھے۔ حاضری سے قبل نواب شیر محمد خاں کی ملاقات آپ کے مشہور خلیفہ مولانا اشرف علی صاحب بھیروی سے ہوئی۔ خلیفہ صاحب ڈیوڑھی پر تشریف فرما تھے۔ نواب صاحب ان سے محو گفتگو ہوئے تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ نواب صاحب آپ اللہ والوں سے ملاقات کو آئے ہیں اور آپ نے سونا پہنا ہوا ہے۔

یہ سن کر نواب صاحب نے فوراً سونے کے بٹن اتار دیئے۔

پھر خلیفہ صاحب نے فرمایا کہ تم اپنی مونچھوں کو بھی شریعت کے مطابق درست کراؤ۔

نواب صاحب نے مونچھیں بھی درست کرائیں۔ اور قیمتی لباس بھی اتار دیا جس سے کہ کبر و نخوت کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر وضو کر کے خلیفہ صاحب کے ہمراہ اندر داخل ہوئے اس وقت حضرت خواجہ صاحب علمائے مسلمانہ توحید پر بات چیت کر رہے تھے۔

نواب صاحب نے "السلام علیکم" کہا۔

آپ نے فرمایا کہ شیر محمد خاں بیٹھ جاؤ۔

اور ہاتھ سے ایک طرف اشارہ فرمایا۔

نواب صاحب بیٹھ گئے۔

جب علمائے گفتگو ختم ہو چکی تو حضور نواب صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اس دوران نواب صاحب حضور خواجہ صاحب کی گفتگو سن کر بے حد متاثر ہو چکے تھے جسم بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا اور انکھیں اشکبار تھیں جب اس نے

حضور خواجہ صاحب کو اپنی طرف متوجہ پایا تو عرض کی کہ مجھے اپنی غلامی میں داخل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔ میاں تم نواب ہو کسی بڑے بزدل سے بیعت کرو۔ ہم تو بالکل عاجز اور گنہگار بندے ہیں۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا خبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ لیکن نواب صاحب نے بڑی انکساری سے بار بار اصرار کیا تو آپ نے اسے بیعت سے نوازا۔ اور حلقہ مریدین میں داخل کر لیا۔

پھر آپ نے اسے کچھ پند و نصائح کیے اور کہا کہ علمائے سوکے و عظیم شریعت نہ کرنا۔ شریعت کے احکام کی پابندی کرنا۔ فرنگی حکام سے نفرت رکھنا۔

لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ اور مہربانی سے نواب کی کایا پلٹ گئی اور وہ بے حد متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ کوئی وقت ذکر و شغل سے خالی نہ جاتا تھا اور ہمہ وقت با وضو رہتا تھا۔ جب کسی انگریز سے ہاتھ ملاتا تو اس کے فوراً بعد مٹی اور صابن سے ہاتھ دھو لیتا تھا۔

معتبر روایت کے مطابق نواب صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدم شیدائی بن گئے اور احکام شریعت پر اس قدر سختی سے عمل کیا کہ انہیں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوتا تھا۔ گیارہویں اور بارہویں ختم دلوانے اور ہر ماہ کے مطابق وعظ سننے کا آپ نے حکم دیا تھا۔

ایک دفعہ علاقہ سرگودھا سے آپ کا ایک مخلص مرید میاں گل محمد کلیا حاضر خدمت ہوا۔ اور عرض کی کہ یا حضرت فلاں ٹھڈھی منیدار سے میں نے اپنے لڑکے کے لیے اس کی لڑکی کا رشتہ طلب کیا۔ مگر چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے لہذا اس نے صاف انکار کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ تمہیں مجھ سے رشتہ مانگنے کی جرأت کیسے ہوئی۔

اس سے میری بڑی ہتک ہوئی ہے اب میں اپنے علاقے میں منہ نہیں دکھا سکتا۔ میرے حال پر مہربانی فرمائیے۔

آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ میاں گل جاؤ! تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے وہ شخص تمہارے گھر کے تین چکر لگا چکا ہے۔ اور اب وہ اپنی زبان سے رشتہ دینے کو تیار ہے

حضور کے ارشاد کے مطابق میاں گل محمد کلیا رجب واپس گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ زمیندار تین مرتبہ میاں گل محمد کو ملنے آئے تھے۔

ادھر جب زمیندار کو میاں گل محمد کی واپسی کی اطلاع ملی تو خود چل کر میاں گل محمد کے گھر پہنچا۔ اپنے پہلے روپے کی معافی مانگی اور کہا کہ میاں اٹھو! اپنا کام سرانجام دو۔ میں نے اپنی لڑکی کا رشتہ تمہارے لڑکے سے کر دیا ہے۔

❖

ایک مرتبہ آپ اللہ شریف تشریف لے گئے اور اپنے مرید مخلص حضرت مولانا غلام نبی اللہی کے ہاں قیام فرمایا۔

حضرت مولانا غلام نبی اللہی سے پہلے وہاں آپ کے قدیمی مرید اور مخلص مولوی فیض بخش صاحب تھے جن کے ساتھ آپ کے دیرینہ تعلقات بھی تھے لیکن جب حضرت مولانا غلام نبی اللہی کو شرفِ بیعت حاصل ہوا تو پیرِ کامل کی نظر اپنے مریدِ بونہار کی علوِ استعداد کو بھانپ گئی اور رشتہ محبت اس قدر بڑھا کہ درمیان سے دوئی کے تمام پردے اٹھ گئے۔ اسی تعلق کی بنا پر آپ نے مولانا غلام نبی اللہی کے یہاں قیام فرمایا اور اپنے دیرینہ مرید مولوی فیض بخش کو یہاں بلا بھیجا۔ لیکن وہ

اس خیال سے کہ آپ نے وہاں قیام کیوں فرمایا۔ خانہ بند ہو گئے۔ اور قاصد کو کہلا بھیجا کہ فیض بخش گھر میں موجود نہیں۔

لیکن آپ نے کشف سے فوراً معلوم کر لیا۔ اور قاصد سے کہا کہ نہیں جاؤ اور انہیں بلا لاؤ۔

پھر یہی جواب ملا۔

فرمایا کہ بہتر ہے۔ میں نے اللہ میں ایک بوٹا لگانا تھا وہاں نہیں تو یہاں سہی۔ چنانچہ اللہ میں آپ نے وہ پودا لگایا کہ جس کا فیض اب تک جاری ہے۔ مولوی فیض بخش غصہ میں آکر حضرت خواجہ تونسوی کے مرید ہو گئے اور طالبِ خلافت ہوئے لیکن گوہر مقصود تاحیات حاصل نہ ہو سکا۔

## خلفاء

حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری و ائمہ المحضوری جب دہلی سے حضرت شاہ  
غلام علی صاحب دہلوی اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے فارغ التحصیل  
ہوئے اور طریقہ عالیہ مجددیہ کی خلافت اور علم حدیث کی سند اور تعلیم و تدریس کی  
اجازت حاصل کر کے واپس پنجاب لوٹے تو ان دنوں پنجاب میں بدعات کا زور  
تھا۔ لوگ احکام خداوندی اور احکام شریعت سے منہ موڑ چکے تھے اور اس غفلت  
کے سبب اسلام گویا خشک سالی کا شکار تھا۔

آپ نے شریعتِ مصطفیٰ اور عشقِ الہی سے اس علاقے میں تروتازگی اور ایک  
نئی زندگی پیدا کی۔ آپ نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنے حلقہ خاص



کے کچھ عقیدت مندوں اور مریدوں کو بیعت و ارشادِ طریقت کی اجازت بھی بخشی۔  
چند ایک ممتاز و معروف خلفاء کے اسمائے گرامی یہاں درج کیے جاتے ہیں :

- ۱۔ خلیفہ اول حضرت مولانا غلام نبی اللہی ضلع جہلم
- ۲۔ حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب بیرل شریف ضلع سرگودھا
- ۳۔ حضرت مولانا حافظ نور الدین صاحب چکوڑی شریف ضلع گجرات
- ۴۔ مولانا حافظ علم الدین و حافظ محمد الدین برادران حافظ نور الدین چکوڑی شریف ضلع گجرات۔

- ۵۔ حضرت مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب نمک میانی
- ۶۔ حضرت صاحبزادہ مفتی غلام احمد ولد مفتی غلام محی الدین نمک میانی
- ۷۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب مرالی شریف نزد ڈیرہ اسماعیل خان
- ۸۔ حضرت مولانا بدر الدین صاحب اوچ لدھی کی نزد لیانی علاقہ لاہور
- ۹۔ حضرت مولانا خواجہ شاہ غلام دستگیر صاحب ہاشمی قصوری
- ۱۰۔ حضرت خواجہ صاحبزادہ حافظ شاہ عبدالرسول صاحب رحمت اللہ علیہ  
قصوری قصوری۔

- ۱۱۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب بھیرہ
- ۱۲۔ حضرت مولانا کرم الہی صاحب والد مولوی دلپزیر بھیروی
- ۱۳۔ حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب قندھاری رحمتہ اللہ علیہ
- ۱۴۔ حضرت مولانا صالح محمد صاحب کنجاہی
- ۱۵۔ حضرت مولانا سلطان احمد صاحب کانگڑہ والے

# اولاد

خواجہ قسوری دامم المحضوری کی شادی آپ کے اپنے خاندان ہی میں ہوئی تھی۔ زوجہ محترمہ کا نام نامی مائی زلیخا تھا۔ اولاد میں ایک صاحبزادہ اور دو صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادہ کا نام نامی اسم گرامی حضرت صاحبزادہ حافظ عبدالرسولؒ تھا۔ بڑی صاحبزادی کا نام بی بی حافظہ اور چھوٹی صاحبزادی کا نام بی بی پارسا تھا۔ بڑی صاحبزادی بی بی حافظہ کی شادی مولانا غلام علی قسوری سے ہوئی تھی ان کے بطن سے ایک صاحبزادی تولد ہوئیں جن کا نام صاحب بیگم تھا۔ اور چھوٹی صاحبزادی بی بی پارسا آپ کے خلیفہ حضرت مولانا غلام دستگیر ہاشمی قسوری کے عقد میں آئیں !

قصیدہ در مدح حضرت صاحبزادہ حافظ خواجہ  
ابوسعید فخرالدین

## عبدالرسول قصوری حضوری<sup>رح</sup>

ان حضرت مولانا غلام محی الدین کنجاہی ابن مولانا  
صالح محمد کنجاہی !

صدف سینہ من مسکین و باد پور ز وصف شاہ مبین  
آنکہ از مولدش قصور بیافت و سر بلندی و رفعت از پروین  
فکرت اندیش مدح او چو شدم کہ در فکر من فلک تحسین  
شکر شد کہ با چنین نعمت و کرد ما را بفضل خویش قرین  
مسجد خامہ سخن کا غز شد و گاہ ختیر و صف آن شہ دین  
فخر دین ابوسعید عبدالرسول و زینت عالمان دین متین  
شاہ اوزنگ کشور اسلام و ماہ برج سپهر شرح مبین  
نکتہ دان حقیقت و عرفان و زبدہ کا ملان اہل یقین

از پے طالبانِ راهِ حق است پیشواے طریقہٴ تلقین  
از خیالِ جمالِ اولِ شان، مست ز تکِ نگار خانہٴ چین

بیک انگشتِ اوبقتِ دعاءِ دانِ کلیدِ درِ سپهرِ برین  
ہست امیدم کہ گر کند از لطف، یکہ توجہ بحالِ این غمگین

یابد از جملہ مشکلات و غموم، خاطرِ اینِ حزینِ بہتِ کین  
ہر کہ آمد بر آستانہٴ او، رُوئے خود را بیاقتِ نور آگین

در دولتِ سرانے صومعہٴ او، قبلہٴ حاجتِ قلوبِ حزین  
دید چوں پائیگاہِ و مرتبہٴ اش، بس باین جاہِ و حشمتِ و تمکین

بہر خدمتِ بہ پیش او بنہا و آسماں بندہ دار سر بز مین  
نظم من گر مست بمقدار، خالی از لفظ و معنی رنگین

لیک چوں در قبولِ او افتد، شود انگاہِ رشکِ سلکِ درین  
صلہٴ این نظم خویش ہیچ محواہ، اے غلامِ محی الدین

چون نگاہے کہ کمیی اثر است، ز اُس شہِ مہربانِ و خلقِ آئین

ختم کن این قصیدہ را بہ دعاءِ آنچنان کہ فرشتگانِ آئین

مستفیض از فیوض او باشند، تا دمِ صورِ کنانِ زمین

بر سرِ طالبانِ خودِ ظلمتِ بسطِ امتد تا بہ یومِ الدین

حضرت خواجہ صاحبزادہ

# حافظ عبد الرسول صاحبِ قصوری

## پیدائش اور ابتدائی حالات !

حضرت مقبول بارگاہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ حافظ شاہ عبد الرسول علیہ الرحمۃ قدس سرہ قصوری حضوری کی ولادت مبارک کا سن سعید ۱۲۳۵ ہجری ہے۔ پیدائش آپ کی بھی قصور میں ہوئی۔ تمام معلومہ ذرائع اس پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ محی الدین قصوری کی مشہور زمانہ تصنیف "تحفہ رسول" کی اشاعت کے ایک سال بعد ہوئی۔

حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری نے اپنے کشف اور روحانی قوت کی بدولت آپ کی پیدائش، نام، کنیت اور معمولات زندگی، یہاں تک کہ سال وفات تک اپنی مشہور تصنیف مذکورہ میں ایک طویل اور نہایت مرصع نظم کی صورت میں لکھ دیا تھا۔

یہاں پوری نظم قارئین کی دل چسپی کے لیے درج کی جاتی ہے۔ اس سے آپ کی سخن گوئی اور قادر الکلامی کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نظم حسب ذیل ہے۔

اے کہ ہنوزی تو بکنم عدم	زود بہ گلزار جہاں نہ قدم
منتظر تست دل و جان من	مثل گہر جلوہ کن از کان من
راحت دل نور و چشم منی	اب زن آتش چشم منی
سو ختم از آتش ہجورت	تا بہ کجا عرصہ مستوریت
چند بکتاب عدم جائے گیر	رخصت ہستی ز معلم بگیر
شاد ولی وہ زود جودت مرا	دار نہ محروم ز جودت مرا
بہ کہ ہم نام تو عبد الرسول	باو بہ درگاہ رسالت قبول
کنیت تو بہ کہ بود بو سعید !	عمر تو باید کہ بود بر مزید
باو ز حق خوش لقبت فخر دین	باو بہ ہر کار خدایت معین
می و بہت از دل خود چند پند	چونکہ شوی بہت بدیاں کار بند
ہست یقینی گر تو بکارش بری	در دو جہاں یافتہ باشی بری
شکر خدا کن بوجود آمدی	رستہ ز غیبت بہ شہود آمدی
از نسل آدم خاکی شدی	در خود صدگونہ پاکی شدی
گشتہ و یافتہ فضل کل	امت مرحومہ خمیر الرسل
جملہ اعضاء تو سالم صحیح	ساکت و ناطق بہ زبان فصیح
ہوش بدل طبع سلیم الحداس	درک اسرار بعقل و قیاس

سبچہ بکف داد نہ زمار داد  
 از رہ کفران و سے اعراض کن  
 خانہ اخلاص ازیں در در آ  
 گاہ فرستد بہ تو اندک بلا  
 شاد و بلا را چو عطا کن متبول  
 تا شوی از زمرہ اہل صفا  
 صبر بود فاتحہ دار الفرج  
 کار تو گردد ز شریعت مدام  
 تا فتن نور حقیقت از و است  
 داں بہ یقین کاہل خدایت بود  
 مرد پدر زن تو چو مادر بدان  
 داں تو چو ہمیشہ برادر و را  
 دختر و فرزند خود اورا مثر  
 بد نظری تیرسم آلودہ و ان  
 جز کہ بہ منگو ہم خود حل مکن  
 از پے درد است دوائے ختمی  
 بر سر نا اہل جہاں تیشہ کن  
 جانی و نانی و زبانی شناس  
 چود کن و لطف کن ایشار کن

جات بہ مسجد نہ ببا زار داد  
 فنکر چنین منعم نیست اض کن  
 شکر چہ باشد ہمہ بودن در آ  
 باز چوں این منعم و ائم عطا  
 جنوع مکن فزع مشو دل ملول  
 صبر کن و وہ بقضائش رضا  
 صبر بود و واقع دارا لہرج  
 باشی پے پاس شریعت مدام  
 یافتن راہ طریقت از و است  
 ہر کہ نہ از اہل شریعت بود  
 ہر کہ بہ سال از تو فرزند باشد آن  
 و آنکہ بہ سال است برابر ترا  
 و آنکہ بہ سال است ز تو خروتر  
 ریدہ مکن جانب نامحرمان  
 بند سراویل مسلسل بہ کن  
 بند سراویل عقیقان لقتیں  
 دوستی اہل دلاں پیشہ کن  
 ہر کہ بہ تو گشت محبت احساس  
 با ہمہ وفق دلش کار کن

زانکه بود صحبت ایشان چو بار  
 مار به تن یار به ایمان زند  
 تا نشوی از صحبت شان سر بلند  
 هست یقین بیخ خود اکنان  
 قامت خود بهر طمع خم مکن  
 خم مکن این پشت بجز پیش او  
 کس ندید تا ندهاند ترا!  
 خطره اغیار بخاطر خطا است  
 ترک طمع گیر شوی تاج سر  
 چشم تو تنگ است هتی میرود  
 پس ز طمع چشم پری چوں منی  
 می شود از همت تو خاک زد  
 گل شود از همت تو خارها  
 آنچه بر آید ز شکم قیامتش  
 تا که به پیری نشوی خاکسار  
 رازق ما خالق ارض و سما  
 در شب پیریت بوم مر ترا  
 روئے بجز خوئے نیزد بجز

صحبت او با شش مکن ز بهار  
 صحبت یاران بدان مار بد  
 صحبت نیکان طلب ای هوشمند  
 صحبت بسیار به کودک زمان  
 اهل غنا صحبت شان هم مکن  
 آنکه نهاد دست ترا سپت درو  
 نیست که او نفع رساند ترا  
 نفع و ضرر منع و عطا از خداست  
 گر تو کنی از شوی خاک در  
 هر که طمع کردند پری می شود  
 پس که بلع حرف سه دارد هتی  
 بند به هر کار به همت کم  
 همت عالی به کند کارها  
 پر شکمی هر که بود همتش  
 عمر جوانی به عبادت گزار  
 گفت پیمبر ز خدا پاک ما  
 زور جوانی چو تو باشی مرا  
 روئے را نکو یافته غره مشو



خوئے نکو بہ زبے مال و گنج  
 باش نہ در بند دل آزار کس  
 چیں ز جیبی دور بر افکنده بہ  
 با ہمہ خوش خوئے خوش آواز باش  
 طبیعت بسیار فساد آورد  
 ہر کہ ترا عیب شماری کند  
 عیب گزارد رہ نیکی پذیر  
 عادت خود پرودہ پوشی کنی  
 ہر کہ بود ہرزہ سرا پرودہ در  
 حسن و ادب و زر کہ مہتر شوی  
 بزم بزرگان چوں نشینی خموش  
 نیست ادب پیش بزرگان سخن  
 باش ز خدام مساجد مدام  
 خادم مسجد چے عہدہ مشو  
 مسجدنی دل برو از یاد غیر  
 ظاہر و باطن یکے رنگ باش  
 وعدہ کن گر بکنی کن و ن  
 حتی ہمہ اہل حق آور بجب  
 خوئے نیکو را نرسانند رنج !  
 شو تو گل جملہ مشو خار کس  
 خار بن کینہ ز دل کند بہ  
 کہنہ و افسردہ مشو تازہ باش  
 نام نیکویت بباد آورد !  
 دشمن تو نیست کہ یاری کند  
 تا کہ نزا کس نشود عیب گیر  
 زاز نخواستہ و خموشی کنی  
 آدمیانش ہمہ خوانند خر  
 بے ادبی پیشہ کنی خر شوی  
 شہود خطاشاں چوں بہ بینی بپوش  
 ہر چہ کہ گویند بد انکار کن  
 خدمت مسجد و ہر جملہ کام  
 عہدہ چو خواہی سوئے بتخانہ رو  
 دل چو بغیر است چہ مسجد چہ دیو  
 رنگ مشو مصقلہ رنگ باش  
 نقص مواعید بود بس جفا  
 والدہ و والد و استاد را

جنت عدن ست تہ پائے او  
 شاہ بجز تاج نہ وارد قدر  
 اب نکشائی تو بجز حرف علم  
 علم بود روشنی دین تو  
 با خرد ہو کشش تمیزت کند  
 ایک عمل بہ کہ بود بے ریا  
 راست نما ندست شدہ منحوج  
 نفع ازاں نیست بساں سراب  
 بہ کہ کنی کسب علوم ضرور  
 پیر گزین پیر کند و اصلت  
 پیر بود پیر بود پیر پیر  
 پیر بود مطلع انوار ہو  
 راز نہانی سمہ دانندہ  
 گیر پرکش تا بہ ثریا بہ پر  
 زاویہ گیراں با مید ظہور  
 دام نہانندہ برائے شکار  
 موش کشا نند بمکر و عذر  
 ظاہر نشان مسجد و باطن کنیس

ماور مشفق مدہ ایذائے او  
 نیست پدر جز ببرت تاج سر  
 عمر تو با بد کہ شود صرف علم  
 علم بود پیر نخستین تو  
 علم بود آنکہ عزیزت کند  
 علم چو خواندی بحمل شوگرے  
 چونکہ عمل شد بریا مزدوج  
 ہست عملہا ریائی خراب  
 مقصد اصلی ست چو با حق حضور  
 علم ضروری چو شدہ حاصلت  
 صیقل مرآت ضمیرے سمیر  
 پیر بود مخزن اسرار ہو  
 پیر بود راہ رسانندہ  
 پیر چو شاہیں تو چو مورش پیر  
 لیک گمیز آرز پیران زور  
 مدعیان اندوریں روزگار  
 گر بہ دشانند مراقب بہر  
 صورت انسان ببرت بلیس

قصد سوئے شنا جہاں آباد کن  
 فانی فی اللہ و فنا فی الرسول  
 نیست دم از یاد خدا او جدا  
 سری وقت ست جنید زمان  
 خضیہ نہ این کار عیاں میکند  
 شیخ ہمہ شاہ غلام علی  
 زود شوی عرق در امواج نور  
 منع رسیدم کہ سخن کوتہ بہ

از ہمہ پیران دولت آزاد کن  
 ہست در آن شہر شہی دل قبول  
 دیدن او باعث یاد خدا  
 فیض وہ اہل زمین آسمان  
 یک نظرش کار جہاں میکند  
 عنوت زمین قطب زمان منجلی  
 ہست امید چورسی در حضور  
 در ولم آمد کہ کثرت مگرہ

سایہ اش از فرق جہاں کم مباد  
 باو بقا تا دم یوم المنتہاد

آپ کے والد ماجد اپنے دور کے نامور عالم اور صاحب کرامت بزرگ اور  
صوفی تھے۔ اس لیے حصولِ تعلیم کے لیے سن شعور کو پہنچنے پر زانوئے تلمذ والد ماجد  
کے سامنے ہی طے کیے۔

حفظِ قرآن اور تجوید و قرأت کے فن کے علاوہ دیگر علومِ ظاہری جن میں  
فقہ، شرح، حدیث، منطق، فلسفہ، شعر و ادب، معقولات و منقولات، صرف  
و گراٹر وغیرہ شامل ہیں والد ماجد سے ہی حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلوک  
منزلیں بھی انہی کی ہدایت اور نگرانی میں طے کیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ  
خلافت اور اجازتِ بیعت بھی والدِ مکرم سے حاصل کی۔

تحقیقِ حقیقتی کے مصنف مولوی نور احمد چشتی کے دوست ہم عصر اور مشہور  
مورخ مفتی غلام سرور مصنف خزینۃ الاصفیاء کو آپ سے ملاقات کا شرہ  
حاصل تھا۔

مفتی غلام سرور اپنی کتاب عدلیتہ الاولیاء میں رقم طراز ہیں کہ

”حضرت شاہ عبدالرسول قصوری عالمِ علم

فاضلِ افضل، کاملِ اکمل، جامعِ شرافت و

نجابت، ہادیِ شریعت و طریقت،

حقیقت و معرفت تھے۔ ان کی زیارت

سے خدا یاد آتا تھا۔ وعظ میں اثر تھا۔

دورانِ وعظ آنکھیں اشک بار

ہو جاتی تھیں۔“

سلوک مجددیہ آپ نے حضرت قبلہ گاہی سے طے فرمایا تھا۔ قبلہ والد صاحب نے آپ کے ذمے درس علوم دین و تعلیم، حفظ قرآن اور توجہ مریدین کا کام سونپا تھا۔ آپ خاص و عام کو وعظ و نصیحت فرماتے۔ ہمیشہ کسرِ نفسی آپ پر غالب رہی۔ حلقے میں شامل ہونا، اور سفر کرنا آپ کے لیے دشوار تھا۔

تمام ظاہری و باطنی اشیاء سے بے نیاز تھے۔

کسی نواب صاحب نے آپ کے پاس نذر کے طور پر ایک بھینس بھیجی۔ لیکن آپ نے قبول نہ کی اور واپس لوٹا دی۔ جب اہل خانہ کو معلوم ہوا تو ناراض ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے نواب صاحب کو رقعہ لکھا اور گھر والوں کی ناراضی کی اطلاع دی۔

رقعہ یہ تھا :

”گاؤ میں رسیدہ، دل ریش گردیدہ، از  
ماندش دل تنگی و از راندش خانہ جنگی۔  
دبھنیں تو اُنی مگر دل پر چوٹ لائی۔ رکھنے  
سے دل کو تنگی اور واپس کرنے سے خانہ جنگی  
ایں بلائے عظیم است و خدائے کریم است۔“

نواب صاحب نے رقعہ مبارک پڑھا اور بھینس دو نوکروں کے ساتھ خدمتِ عالیہ

میں واپس بھیجی۔

جو شخص آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا آپ اس پر خفا ہوتے اور منع فرماتے۔  
طبقہ امرا میں سے جو آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے ان میں سے جو ملاقات کے لیے  
آتا آپ روپوش ہو جاتے۔ اگر اتفاقاً کوئی پاس اُبیٹھتا تو بہت کم نشست رکھتے۔ اس

کے خلاف طبع گفت گو فرماتے تاکہ وہ اٹھ جائے۔

درویشوں اور خدادوست انسانوں کی خدمت کا بے حد شوق تھا۔

مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی مشہور تصنیف حدیقۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر ۷۷ پر آپ کے اوصاف حمیدہ پر روشنی ڈالی ہے انہوں نے آپ سے ملاقات بھی کی۔ حضرت خواجہ سید حافظ محمد شاہ صاحب جو آپ کی صاحبزادی کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے بھی آپ کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔

آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ مریضی کو بھی اس کی سخت تاکید فرماتے اور حکم دیتے۔  
آپ فرمایا کرتے تھے کہ

”سنت نبویؐ پر پوری طرح عمل کیے بغیر  
کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا۔“

ہر لحظہ آپ کو سنت نبویؐ پر پوری طرح عمل پیرا رہنے کا خیال رہتا تھا۔  
یہاں تک کہ آپ نے چھ ماہ کے ایسے بکریوں کا ریوڑ بھی چرایا تاکہ گلہ بانی جو  
سنت رسول اللہؐ ہے وہ بھی پوری کی جائے۔  
باقی زندگی کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے۔

## عادات و خصائل !

اپنے والد محترم کی حیاتِ اقدس میں نہایت نازک و لطیف طبع رکھتے تھے نہایت مہذب الاخلاق تھے گو یا تمام اوصافِ حمیدہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے۔ آپ جو دو سخا کا گو یا ایک منبع تھے کسی کی معمولی تکلیف برداشت نہ ہوتی۔ دوسروں کی حاجت اور ضرورت کو ہمیشہ اپنی حاجت اور ضرورت پر مقدم رکھتے تھے یہاں تک کہ موسم سرما کی راتوں میں اگر مہمان آتے اور ان کے پاس رات بسر کرنے کا سامان نہ ہوتا تو آپ اپنا بستر اور لحاف تک مہمانوں کو دے دیا کرتے تھے۔

**سخاوت** کا طریقہ ہمیشہ یہ تھا کہ اسے طشت از بام نہ ہونے دیتے تھے۔ اور نہ خود ظاہر کرتے تھے۔ بلکہ یہ معاملات اخفا میں رہتے۔ فرماتے تھے کہ

”سخاوت دونوں طریقوں سے دظاہر اور باطن کرنے کا حکم ہے لیکن ابن آدم سے اس امر کا خدشہ ہے کہ ظاہری سخاوت سے نفسِ انسانی فخر و تکبر اور نمود و نمائش میں پھنس جائے اور اس طرح جو چیز محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے اس میں ذاتی نمود کی خواہش شامل ہو جائے تو یہ سخاوت اجر کی بجائے ذریعہ عذاب بن جائے گی۔“

بستانِ معرفت کا مصنف آپ کی سخاوت کا ایک واقعہ یوں درج کرتا ہے کہ حضرت خواجہ مقصوری دامم الحضورؒ کا سالانہ عرس قریب آ گیا۔ نقد و جنس کی صورت میں کوئی چیز عرس کے اخراجات کی کفالت کے لیے موجود نہ تھی۔ صرف ایک لنگی تھی۔

حاجی امام بخش کو یہ لنگی دی اور اسے لاہور سے فروخت کر آؤ تا کہ عرس مبارک کے اخراجات کے لیے کچھ رقم مل جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ لاہور پہنچے، لنگی فروخت کی۔ دو تین دن کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ صبح کا وقت تھا اور آپ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد ابھی مسٹلی پر ہی تشریف رکھتے تھے اور ایک سفید ریش بزرگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حاجی امام بخش کو دیکھا تو فرمایا کہ

”حاجی امام بخش جو کچھ تم لائے ہو، ان شاہ صاحب کی نذر کرو۔“

حاجی امام بخش نے چار انگلیوں کا اشارہ کیا یعنی انہیں چار روپے دے دیئے جائیں؟

لیکن آپ نے فرمایا کہ

”ہرچہ آوردہ جملہ بدہ۔“

یعنی جو کچھ تم لائے ہو سب کا سب دے دو۔

اس مرتبہ حاجی صاحب نے دس انگلیوں کا اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ آیا دس روپے دے دیئے جائیں؟

اس پر آپ جلال میں آگئے اور فرمایا کہ

”ہرچہ آوردہ جملہ نذر این شاہ صاحب  
بخضیہ طور کن۔“

یعنی جو کچھ بھی تم لائے ہو سب کا سب  
خضیہ طور پر ان شاہ صاحب کی نذر

کر دو



پھر آپ اس سائل سے مخاطب ہوئے اور فرمایا  
 "شاہ صاحب! یہ حاجی امام بخش صاحب بڑے صالح اور نیک آدمی ہیں یہ  
 کچھ نذر کرتے ہیں آپ اسے شرف قبولیت بخشئے!"

اور پھر حاجی امام بخش جو کچھ لائے تھے شاہ صاحب کی نذر کر دیا گیا۔  
 جب سائل چلا گیا تو حاجی صاحب نے قدم بوسی کی اجازت چاہی اور عرض کیا کہ  
 شاید عرس مبارک کے اخراجات کا خیال حضور کے دل سے محو ہو گیا تھا اس لیے میں نے  
 دو مرتبہ آپ سے دریافت کیا کہ سائل کو کس قدر دیا جائے۔  
 آپ نے فرمایا۔

"حاجی صاحب! عرس کا خیال دل سے محو تو نہیں ہوا تھا۔ دراصل اس بزرگ صورت  
 شخص نے اپنی لڑکیوں کے اخراجات کے لیے ہم سے کچھ مدد طلب کی تھی اور اپنی  
 تنگدستی اور مصیبت کا ذکر کیا تھا۔ اس سائل کی ضرورت کو پورا کرنا عرس پر خرچ کرنے  
 کی نسبت اجر آخرت میں زیادہ افضل تھا لہذا ساری رقم اس شخص کو دینے کے لیے  
 کہہ دیا تھا۔ عرس کے اخراجات کے لیے خداوند کریم اپنے فضلِ عمیم سے کوئی اور  
 ذریعہ پیدا فرما دے گا۔"

آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا بلکہ اپنی حیثیت  
 سے بڑھ کر سائل کو دیتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک مجمع عام میں ایک سائل نے آپ سے کچھ طلب کیا۔  
 فرمانے لگے کہ

"بھائی! ہم تو فقیر لوگ ہیں کسی غنی سے سوال کرو۔"

جب سائل مایوس ہو کر لوٹنے لگا تو آپ نے منشی کو اشارہ کیا کہ سائل کو کچھ دیں۔ منشی صاحب نے سائل کو خفیہ طور پر کچھ نقدی دی۔

اور آپ نے فرمایا کہ

”زود برو، زود برو!“

یعنی جلدی جلدی جاؤ۔

حضرت مولانا مفتی غلام دستگیر میانوالی ولے بھی موجود تھے۔ انہوں نے جانتا چاہا کہ حضرت نے سائل کو کیا دلویا ہے چنانچہ وہ خود سائل سے ملے تو سائل نے بتایا کہ حضرت نے بیس روپے دلوائے تھے۔

❖

نقل ہے کہ جب آپ نے اپنی دختر نیک اختر کا عقد حضرت سید غلام حسین شاہ صاحب سے کیا تو بے شمار سائل بھی اس تقریب پر آ موجود ہوئے ان میں طوائفوں کا گروہ بھی شامل تھا، وہ بھی سائل بن کر آئی تھیں۔ آپ نے انہیں بھی نقدی دلوائی۔ لوگوں نے اعتراض کیا۔ کہ آپ نے رنڈیوں کو خیرات کیوں دی۔

فرمایا کہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور پھر اس وقت تو وہ سائل کی حیثیت سے آئی تھیں لہذا ان کی ضرورت پوری کرنا اور ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنا میرا فرض تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ

”وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ“

## مہمان نوازی !

حضرت خواجہ حافظ عبدالرسول انتہائی درجے کے مہمان نواز تھے کہ یہ سنتِ رسولؐ ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ اور کسر اٹھانہ رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس مہمان کی حیثیت سے آیا۔ وہ حقہ نوشی کا سخت عادی تھا لیکن اس مردِ درویش کے سامنے احترام و عقیدت مانع تھے کہ وہ حقہ نوشی اور اس کی حاجت کا ذکر آپ سے کرتا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب حسبِ عادت اسے حقہ نہ ملا تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اس کے باوجود اس نے حقہ طلبی کا ذکر نہ کیا۔ وہ مارے درد کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔

جب آپ نے دیکھا تو فوراً کشف سے معلوم کر لیا کہ اسے حقہ کی ضرورت ہے ان دنوں حقہ نوشی کا رواج عام نہ تھا۔ حالِ حال لوگ اس سے شغف رکھتے تھے خانہ بدوشوں کے گروہ شہر سے باہر اترے ہوئے تھے اور یہ تمام لوگ حقہ نوشی کے عادی تھے۔ آپ فوراً ان کے پاس گئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔

وہ لوگ آپ کو اپنے درمیان موجود پاکر حیران و ششدر بھی تھے اور ان کی خوشی و مسرت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے نہایت عاجزی اور ادب و احترام سے عرض کیا کہ حضور آپ تشریف لے چلے میں ابھی حقہ تیار کر کے حاضر ہوتا ہوں۔

فرمایا۔ وہ میرا مہمان ہے میں خود لے کر جاؤں گا۔

اس نے عرض کیا کہ حضرت ! یہ ناپاک چیز ہے آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں۔

فرمایا کوئی مضائقہ نہیں۔

پھر حقہ تیار کروایا اور ماتھے پر کپڑا لپیٹ کر حقہ پکڑا، اور مہمان خانہ میں تشریف لے آئے۔ آہستہ سے دروازہ کھولا اور مہمان کی چار پائی کے قریب جا کر حقہ رکھ دیا پھر خود باہر نکل آئے۔

مہمان نے درو کے مارے کروٹ بدلی تو حقہ دیکھ کر سخت متعجب ہوا۔ پھر اٹھ کر حقہ نوشی میں لگ گیا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی، ورد جاتا رہا تو وہ سو گیا۔ حضور پھر دبے پاؤں اندر تشریف لائے، حقہ اٹھایا اور اسی خانہ بدوش کو واپس کر آئے۔

صبح مہمان حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اس سے اس کا تذکرہ اشارۃً بھی نہ کیا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ اور نہ ہی مہمان نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔



موری دروازہ قصور کے اندر ایک پٹھان کی دکان تھی۔ شہر کے اکثر بھنگ نوش اس کے پاس جمع ہوتے اور بھنگ کا دور چلنا تھا۔ ایک دن یہ لوگ بھنگ گھوٹ کر اسے چھان کر پینے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اتفاقاً حضرت خواجہ ثانی جو کہ فوروشیوں کے ہمراہ آستانہ عالیہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے ادھر سے گزرے، بھنگ نوشوں نے آپ کو دیکھا تو ادھر ادھر دوڑے کہ ہمیں چھپ جائیں۔ اس بھگدڑ میں بھنگ کا برتن الٹ گیا۔

آپ نے سب کچھ دیکھا اور چہرہ قدم آگے جا کر اپنے منشی حکیم خدابخش سے فرمایا کہ ہماری وجہ سے ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے لہذا انہیں چار آنے کے

پیسے دے اؤ۔ کہ یہ نیا برتن خرید لیں۔

لوگ متعجب ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ حرام چیز میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔  
 آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسے حرام سمجھتا ہوں لیکن ان لوگوں نے جو محنت کی تھی وہ محنت  
 میری وجہ سے رائیگاں گئی ہے یہ چار آنے ان کی محنت کا معاوضہ ہے نہ کہ بھنگ کی  
 قیمت۔

## انکسارِ طبع !

طبعیت فخر و مباہات سے بالکل پاک تھی۔ انتہائی منکسر المزاج تھے۔ اپنی موجودگی  
 یا عدم موجودگی میں اپنی تعریف و ستائش کو نہ صرف ناپسند فرماتے، بلکہ اس پر  
 اظہارِ ناراضی کرتے۔

ایک مرتبہ مریدین نے آپس میں آپ کے روحانی مقام کا ذکر کرتے ہوئے  
 کہا کہ آپ قطبِ وقت ہیں۔

یہ بات کسی ذریعے سے آپ تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نہایت خفا ہوئے اور اس  
 مرید سے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔

حصولِ تعلیم کے لیے دوردراز سے طلباء آپ کے حلقہٴ درس میں آتے تھے  
 اور فیضِ یاب ہوتے تھے۔ علم و فضل میں آپ کو زبردست مقام حاصل تھا۔  
 لیکن آپ نے کبھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ شاگرد یا دوسرے لوگ آپ کی  
 علمیت اور قابلیت کا ڈھنڈورہ پیسے۔ حلقہٴ درس میں آپ کبھی کتاب ہاتھ  
 میں نہ لیتے تھے۔ بلکہ شاگرد کتاب پڑھتا تھا اور آپ کمال طریقے سے مشکل

سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں گھر کے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ کم از کم کوئی ایسا سہارا تو ہونا چاہئے کہ وقت پڑنے پر کام آئے۔ شاہ صاحب ان خیالات میں گہرے ہوئے تھے اور خواجہ حافظ عبدالرسولؒ نے بذریعہ کشف ان کے دل کی کیفیت معلوم کر لی اور ایک درویش کو بھیجا کہ شاہ صاحب کو بلا لائے۔

درویش جب آپ کا پیغام لے کر شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ دل کا اندیشہ حضرت خواجہ صاحب پر ظاہر ہو گیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے تشریف لائے آپ نے فرمایا :

”شاہ صاحب! کیا دنیا کی بہت خواہش ہے؟ فرمائیے آپ کو کتنی دلت درکار ہے؟“

شاہ صاحب کے دل پر اس ارشاد کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ اب زبان کھولنے کا کسے یارا تھا۔ یہ خاموشی دیکھ کر آپ نے مزید فرمایا :

”اگر آپ ہمارے نقش قدم پر چلتے رہیں گے تو دنیا کی کسی چیز کی کمی آپ کو کبھی محسوس نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مقاصد میں کامیاب کرے گا اور تمام حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی۔“

حضرت سید غلام حسین شاہ صاحب نے جب آپ کے ارشادات سنے تو آپ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اور تمام اندیشہ ہائے دُور دراز دل سے نکالا۔ ہمیشہ کے لیے صرف توکل علی اللہ کو اپنا۔

لیا۔

بچوں سے اپنے کپڑے خریدوں گا۔

اُپ کا معمول تھا کہ اُپ چھ ماہ ایک بقال سے ادھار لیتے تھے اور چھ ماہ کے بعد اس کا حساب چکا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ اُپ اس کا حساب نہ چکاسکے۔ وہ ہر روز آتا اور یاد دہانی کرا کے واپس چلا جاتا۔ خادم حافظ محمد خاں گوش گزار کر دیتے تھے اُپ فرماتے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے جلد کوئی انتظام کر دے گا۔

آخر بقال نے حافظ صاحب کو زیادہ تنگ کیا۔ اس نے حضرت خواجہ ثنائی کی خدمت میں جلد ادائیگی کے لیے عرض کی۔

اُپ نے فرمایا کہ اچھا درویشوں سے کہو کہ خانقاہ کی زیارت کو چلے جائیں اور تم مسجد کا دروازہ بند کر کے میرے پاس آ جاؤ۔

حافظ صاحب نے درویشوں کو آستانہ کی زیارت کے لیے بھیج دیا اور خود مسجد کا دروازہ بند کر کے حاضر خدمت ہوئے۔

اُپ اس وقت کتب خانہ میں تشریف فرما تھے۔ اُپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب ان کتابوں کو یہاں پڑے پڑے بہت عرصہ گزر گیا ہے گرد و غبار سے اٹی پڑی ہیں، کیا خیال ہے کہ انہیں صاف کر کے نہ رکھ دیں۔

حافظ صاحب نے کہا، حضورؐ کا خیال مبارک درست ہے، ان کی صفائی ضروری ہے، پھر اُپ نے فرمایا کہ آؤ اوپر چڑھ کر کتابیں مجھے پکڑاتے جاؤ۔

علمیت اور قابلیت کا وہ صاحب اور چڑھ گئے اور کتابیں نیچے پکڑاتے گئے۔ جب کتابیں ختم ہو گئیں میں نہ لیتے تھے۔ بلکہ شاگرد کتاب پر بنی ہوئی جھاڑو ناکر حافظ صاحب کو دی اور خود

کہا تو ساتھ ہی روپیے گزنا شروع ہوئے۔

حافظ صاحب کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا۔ روپے مینہ کی طرح برسنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے خوش طبعی سے فرمایا :

”حافظ صاحب !

تم نے روپے چھپا رکھے تھے، اگر پہلے ہی

نکال دیتے تو کیا تھا ! دولت جمع کر کے

نہیں رکھنی چاہئے، اچھا اب بس کرو۔“

آپ کا یہ فرمانا تھا کہ روپے گرنا بند ہو گئے۔

حافظ صاحب نے اب روپے سمیٹنا شروع کیے اور ساتھ ہی ساتھ عرض کرتے

جاتے تھے :

”یا حضرت ! ایک مرتبہ اور....“

آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی کسر باقی رہ گئی ہے ؟

یہ سنتے ہی حافظ صاحب دوبارہ کارنس پر چڑھ گئے اور جھاڑو پھیرنے لگے اور

روپے پھر کرنے لگے۔

آخر کار آپ نے حافظ صاحب کو روکا، روپوں کو ایک جگہ جمع کیا، دکاندار کا حساب

چکایا۔ باقی رقم سے درویشوں کے لیے کپڑے اور دوسرا سامان خریدا۔ عام لوگوں کے لیے

حصہ الگ نکالا۔ دو گھڑے روپوں سے بھر کر سائلوں کے لیے دکھ دیئے۔ سائل آنے

لگے۔ آپ براہ راست سائلوں کو کچھ نہ دیتے تھے، بلکہ یہ کام حافظ صاحب کے ذمے تھا۔

آخر میں صرف پانچ روپے باقی بچے۔

حافظ صاحب نے سوچا کہ صبح ان روپوں سے اپنے کپڑے خریدوں گا۔



اُدھی رات کا وقت تھا کہ ایک سائل خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے حافظ صاحب کو اُوزدی۔

حافظ صاحب سمجھ گئے کہ کوئی سائل آیا ہے۔ وہ دم سادھے پڑے رہے کہ اگر جواب دیا تو یہ پانچ روپے بھی گئے ہاتھ سے۔  
آپ نے پھر اُوزدی۔

”حافظ صاحب باہر نکلو!“  
تا چار حافظ صاحب کو باہر اُنا پڑا۔  
آپ نے فرمایا :

”جو کچھ پاس ہے اس سائل کو دے دو۔“

حافظ صاحب نے اُخری پانچ روپے بھی سائل کی نذر کر دیئے۔  
پھر فرمایا :

”حافظ صاحب! خدا کا رسا ز ہے۔ تمہارے کپڑے بھی بن جائیں گے۔“  
اگلے روز ایک شخص آیا اور حافظ صاحب کے کپڑے بنوا کر دے گیا۔



لہ شریف میں پانی کی قلت تھی۔ لوگ تالابوں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ بارش نہ ہوتی تو لوگ پیاس سے بے تاب ہو جاتے۔ حضرت مولانا غلام نبی لہیؒ کے والد حضرت قاضی غلام حسین صاحبؒ ایک کنواں کھدوانا چاہتے تھے لیکن اس سب جگہ کا پانی کڑوا تھا۔ حضرت مولانا غلام نبی لہیؒ، حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوریؒ کی وفات کے بعد قصور شریف میں آپ کے مزار پر انوار پر معتکف تھے۔ قاضی غلام حسین صاحبؒ نے انہیں پیغام بھجوایا کہ

وہ اعتکاف کے دوران حضرت خواجہ قصوریؒ سے پوچھیں کہ ہم کنواں کھدوانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا حکم ہے۔ پانی میٹھا آئے گا یا نہیں؟

حضرت مولانا غلام نبی لکھنویؒ نے اپنے خلیفہ اجل اور صاحب کشف حافظ فضل محمد صاحب سے کہا کہ حضرت خواجہ صاحبؒ سے عرض کریں۔

انہوں نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھر کہا کہ حضرت خواجہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ پانی شیریں آئے گا۔

لاہور میں ذیلداروں کے خاندان کا ایک شخص میاں امام الدین آپ کے مخلص مریدوں میں سے تھا۔ ایک مرتبہ آپ اس کے پاس لاہور تشریف لے گئے جب اچھرو کے قریب پہنچے تو اس مسجد میں سے جہاں آجکل دارالعلوم فتحیہ ہے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ مسجد میں سے ایک کتیا اپنے بچوں سمیت باہر نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بے حد تکلیف ہوئی کہ خانہ خدا کے متعلق لوگ اس قدر بے پرواہ ہیں۔ واپسی پر جب پھر اسی راستے سے گزر ہوا تو فرمایا کہ مجھے اس جگہ نور نظر آتا ہے یہاں خدا کا نور برسے گا آپ کی یہ بشارت سچ ثابت ہوئی۔

میاں امام الدین کا ایک صاحبزادہ حافظ فتح محمد صاحب مرحوم نے اس مسجد میں اپنے نام پر دارالعلوم فتحیہ جاری کیا۔ اور یہ درس آج بھی جاری ہے۔ حافظ صاحب کی بصارت نہ تھی لیکن صاحب کشف بزرگ تھے اور بڑی ادق کتابیں طلبا کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کو تمام مروجہ علوم پر پوری دسترس حاصل تھی اور اس وقت کے مشائخ عظام جن میں میاں نیر محمد شرفپوری، حضرت خواجہ محبوب عالم شاہ توکلی جو کہ حضرت سائیں توکل شاہ انبالوی کے خاص خلفا میں سے تھے۔ آپ کے پاس فیضان نظر کے لیے حاضر ہوتے تھے حضرت حافظ فتح محمد صاحب مرحوم کو جو کچھ حاصل ہوا۔ وہ حضرت خواجہ ثانی صاحبزادہ سید عبدالرسول کے فیضان نظر کا نتیجہ تھا۔

مولوی غلام علی امرتسری آپ کے بہنوئی بھی تھے اور شاگرد بھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور علاج کے لیے امرتسر گئے۔ اس دور میں وہاں غزنوی کے علما کا دور دورہ تھا۔ وہاں انہوں نے ان علما کے اثر کے تحت اپنا عقیدہ بدل دیا۔ واپسی پر قصور تشریف

لائے تو رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ ثانیؒ کے خوف اور ڈر سے اپنے عقیدے کا برملا اظہار نہیں کرتے تھے لیکن اندرون خانہ انہوں نے اپنے عقیدے کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا تھا۔

یہ خبر آپ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ آپ کو سخت رنج ہوا۔ آپ کی ناراضی کے سبب وہ قصور میں نہیں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مستقل رہائش امرتسر میں اختیار کی اور دوسری شادی کر لی۔

اتفاقاً ایک روز حضرت خواجہ حافظ عبدالرسولؒ کسی کام کی غرض سے قصور سے باہر کہیں تشریف لے گئے۔ قصور میں مولوی غلام علی کے ہم عقیدہ لوگوں نے انہیں پیغام بھیجا کہ قصور تشریف لائیے، حضرت خواجہ ثانیؒ موجود نہیں ان کی عدم موجودگی میں شہر کی جامع مسجد میں ایک تقریر ہو جائے۔

مولوی صاحب فوراً قصور پہنچے دریں اثنا حضرت خواجہ ثانیؒ بھی قصور تشریف لے آئے تھے لیکن لوگوں کو آپ کی واپسی کا علم نہ تھا۔ مولوی غلام علی کی آمد اور وعظ کے متعلق منادی ہو چکی تھی۔ وہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کہ خطبہ پڑھنے ہی والے تھے کہ حضرت خواجہ ثانیؒ مسجد میں پہنچ گئے۔ اور فرمایا کہ "لوگو! یہ بتاؤ کہ یہ شخص کس کی اجازت سے یہاں آیا ہے؟"

آپ اس وقت نہایت حلال میں تھے۔ مجلس کا رنگ ہی بدل گیا۔ اور مولوی غلام علی صاحب منبر سے نیچے اتر آئے اور بلانے والوں کی نیت پریشک کرتے ہوئے انہیں برا بھلا کہا اور یہ بھی کہنے لگے کہ اب میں اس وقت قصور آؤں گا جب عبدالرسول فوت ہو جائے گا۔

یہ بات جب آپ کے کانوں تک پہنچی تو فرمایا کہ ہمارا ایک پیغام بھی اس تک پہنچا دو کہ بے شک فقیر تمہاری زندگی میں ہی اس دنیا سے رحلت کر جائے گا لیکن، یاد رکھنا کہ جس وقت تو سنے گا کہ عبدالرسول مر گیا ہے تو تیرے ہاتھ پاؤں جس جگہ ہوں گے وہیں جڑ جائیں گے اور ان میں حرکت کی سکت باقی نہیں رہے گی اور تم میں چلنے پھرنے کی جو طاقت ہے وہ سلب کر لی جائے گی۔

چنانچہ جن دنوں حضرت خواجہ ثانی حافظ عبدالرسولؒ کا انتقال ہوا، ان دنوں قصور کی کئی عورتیں شادی بیاہ کا سامان خریدنے امر نسر گئی ہوئی تھیں۔ مولوی غلام علی چونکہ قصور میں رہ چکے تھے اس لیے ان سے جان پہچان کے سبب یہ عورتیں انہیں کے یہاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ دریں اثنا مولوی صاحب کا لڑکا ایک تار لیے ہوئے آیا اور مولوی صاحب کو بتایا کہ

”ابا جان! مبارک ہو! قصور میں آپ کا دشمن اور بدعتی عبدالرسول مر گیا ہے۔“  
یہ پیغام قصور سے مولوی صاحب کے حواریوں نے بھیجا تھا۔ ان عورتوں نے سنا تو انہیں صدمہ ہوا۔ اور رونے لگیں لیکن مولوی صاحب کے گھر میں خوشی و مسرت کا سماں پیدا ہو گیا اور وہ قصور جانے کی تیاریاں کرنے لگے اور پگڑی باندھنے کے لیے قدم اُٹھانے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابھی پگڑی کا ایک دوپچ ہی باندھا تھا کہ جہاں ہاتھ تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ پاؤں اور ہاتھوں سے حرکت کی قوت ختم ہو گئی۔ وہ گھر جو حضرت خواجہ ثانی کی وفات کی خبر سن کر نشاط گاہ بنا ہوا تھا لمحہ بھر میں ماتم کردہ بن کر رہ گیا اور آہ و بیکا کی آوازیں آنے لگیں اور اس طرح آپ کا فرمان درست ثابت ہوا۔

گفتہ اور گفتہ اللہ بود  
گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

موضع کلچیاں کا سردار لکھا ڈوگر آپ کا نخلص مرید تھا۔ سکھوں کا دور حکومت تھا۔ وہ اسے ناحق کسی مقدمے میں ملوث کرنے کے بعد گرفتار کر کے لے گئے۔ اور اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ سردار لکھا ڈوگر کو کسی طرح حضرت خواجہ ثانی کی طرف پیغام بھیجنے کا موقع مل گیا۔ آپ نے اسے کہلا بھیجا کہ  
اڈ پھنیری ساون آیا  
کا ورو کو تار ہے۔

اس نے حسب الارشاد و طیفہ جاری رکھا۔ ساتھیوں نے سنا تو اس کا مذاق اڑایا  
لیکن چند دنوں کے بعد وہ بری ہو گیا۔

ایک مرتبہ گورداسپور سے چند اشخاص آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ جب فقور شریف سے ایک میل دور رہ گئے تو ایک جگہ سستانے بیٹھے۔ ایک کہنے لگا کہ میں حضرت خواجہ ثانی کو جب ولی تسلیم کروں گا کہ آپ مجھے خاص قسم کی ٹوپی عنایت فرمائیں دوسرا بولا کہ میں جب آپ کو ولایت کا قائل ہوں گا جب آپ مجھے مسیحتی اور گوشت کا سالن کھلائیں۔ تیسرا بولا اگر آپ میرے دل کا مقصد جان کر پورا کر دیں تو میں آپ کو ولی تسلیم کر لوں گا۔ چوتھا کہنے لگا کہ میں حج کی نیت رکھتا ہوں۔ اگر آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ ولی ہیں۔ آپ کو بذریعہ کشف ان کی آمد کا حل

معلوم ہوا تو ایک خادم کو بھیجا کہ شہر کے باہر جا کر ان چاروں اشخاص سے کہے کہ تم جن کو ملنے آئے ہو وہ تمہیں بلارہا ہے۔

جب خادم نے جا کر انہیں یہ پیغام دیا تو وہ ششدر رہ گئے۔ اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

سب سے پہلے آپ نے ٹوپی والے کو اس کی منشا کے مطابق ٹوپی دی۔ پھر کھانے والے کو اس کی خواہش کے مطابق کھانا کھلایا۔ پھر جس نے دل کا مقصد جاننے اور پورا کرنے کی شرط رکھی تھی اس کا مقصد بیان فرمایا اور اسے پورا بھی کر دیا۔ پھر حج کرنے کی خواہش رکھنے والے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا کہ میرے حجرے میں جا کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جو چیز تمہارے سامنے لا کر رکھی جائے کھا لینا لیکن چیز لانے والا نظر نہیں آئے گا اس لیے ڈرنا نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی حرکت کرنا۔ اس نے آپ کے کہنے پر عمل کیا۔ کھجوریں، ستوا اور پانی وغیرہ جو کہ بالعموم عربوں کی غذا ہے اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے یہ چیزیں کھائیں اور حجرے سے باہر نکل آیا آپ نے پوچھا اب بتاؤ تمہارے دل میں حج کی خواہش ہے؟

اس نے جواب دیا کہ اب نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا کہ حج تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ دانہ پانی جو ابھی تو نے حجرے میں کھایا ہے تیرے نصیب میں تھا اور تجھے بلارہا تھا۔

ۛ

نواب جلال الدین والی ریاست محدوٹ و جلال آباد آپ کا بے حد مخلص مرید اور معتقد تھا اس کے یہاں اولادِ نرینہ نہ تھی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اولاد کے

یہ دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے دعا فرمائی اور لڑکے کا نام بھی تجویز کر دیا کہ اس کا نام نظام الدین رکھا جائے۔ لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام نظام الدین رکھا گیا جب اس کی عمر پانچ سال ہوئی۔ تو نواب صاحب پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ غلام زادہ کی بسم اللہ خوانی کی رسم بھی آپ ہی ادا فرمائیں۔

آپ نے نواب صاحب کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور ریاست محلہ ٹ تشریف لے گئے۔ نواب صاحب نے ثابانہ انداز میں آپ کا استقبال کیا۔ اور نایت درجہ کی عقیدت مندی کا اظہار کیا۔ آپ نے نواب صاحب کے لڑکے کی رسم بسم اللہ ادا کی۔ اس موقع پر نواب صاحب نے بے شمار نقد اور جنس آپ کی نذر کی۔ اس میں کئی گاؤں اور جاگیریں لنگر کے خرچ کے لیے وقف کر دیں۔ آپ نے بجز ایک گھوڑی چند پارچا اور ایک پونڈ کچھ قبول نہ فرمایا۔

کچھ عرصہ بعد نواب صاحب پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اپنے خدام میں سے ایک خادم ایسا عنایت فرمائیں جو دیانت دار اور مخلص ہو، تاکہ میری تمام ریاست کی دیکھ بھال کر سکے۔

آپ نے فرمایا۔ نواب صاحب! ہم آپ کو اپنا انتہائی معتد خادم دیتے ہیں۔ ہمیں اس پر نایت درجے کا اعتماد ہے اور ہمارے لنگر کا سارا کاروبار اسی کے ہاتھ میں ہے۔

آپ نے اسی وقت مولوی خوشی محمد صاحب کو طلب فرمایا اور نواب صاحب کے سپرد کیا۔ مولوی خوشی محمد صاحب موگھو وال ضلع گجرات کے رہنے والے تھے آپ کے والد محترم میاں کریم بخش صاحب کی قبر حضرت خواجہ حافظ عبدالرہمن سول کے مزار پر انوار



کے عین قدموں میں ہے۔ میاں صاحب حضور کے عاشق صادق غلام تھے۔ دنو اور غسل کی خدمت ان کے سپرد تھی۔

مولوی خوشی محمد صاحب نے آپ ہی سے علم دین پڑھا تھا اور آپ کی ذاتِ اقدس سے بیعت کا شرف بھی حاصل تھا۔ وہ بڑے مؤدب و انا اور زمانے کے گرم سہر و کو خوب سمجھتے تھے۔ خواجہ ثانیؒ کے ارشاد کے مطابق انہوں نے نواب صاحب کے ساتھ بڑے اچھے دن گزارے۔

مولوی صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ساری زندگی قصور شریف کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے اور نہ ہی اپنے سامنے کسی کو ایسا کرنے دیتے تھے۔ حضرت خواجہ ثانیؒ کی جو محبت اور عشق آپ کے دل میں تھا اس کا یہ بڑا اور واضح ثبوت ہے۔ حضرت خواجہ ثانیؒ کے وصال کے بعد آپ کے نواسہ حضرت حافظ سید محمد شاہ صاحب قصوری کی تعلیم و تربیت پر جو کچھ خرچ ہوتا تھا وہ مولوی صاحب مرحوم کی کارکردگی، خدمت گزاروں اور حضرت خواجہ ثانیؒ سے عقیدت مندی کے باعث نواب آف مدوٹ نظام الدین کی طرف سے ہوتا تھا۔ وہ دستاویز اور طلائی سند جس سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے اس وقت بھی اس فقیر کے پاس موجود ہے۔

مولوی صاحب موصوف کی کوئی اولاد نہ رہی نہ تھی صرف ایک صاحبزادی تھی جن کی اولاد سے اب بھی بفضلِ خدا نسل جاری ہے۔

ایک مرتبہ آپ کو لنگر کے لیے گندم کی ضرورت پڑی۔ قصور کے ایک ہندو سیٹھ کے پاس گندم کا ذخیرہ تھا۔ آپ نے روپے دے کر گندم لینا چاہی لیکن ذخیرہ اندوز سیٹھ نے انکار کر دیا۔ آپ نے سنا تو سیٹھ کے متعلق ناراضی کا کلمہ زبان سے نکل گیا

پہلے روز فقور میں اس قدر بارش ہوئی کہ اکثر مکانات گر گئے۔ قصور کی اکثر خواتین نے مکانات گرنے کے باعث آپ کے گھر میں پناہ لی۔ آپ مسجد سے گھر تشریف لائے۔ گھر میں ان قدر خواتین کو دیکھا تو فرمایا: آج تو اللہ میاں نے تمام رشتہ دار ہمارے گھر میں اکٹھا کر دینے ہیں۔ جن میں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی، مائیں بھی ہیں اور خالائیں بھی!

پھر خادمہ مائی جیواں سے فرمایا کہ ان مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی کچھ انتظام ہے؟ اس نے عرض کی۔ یا حضرت! ایک مٹکا اٹے کا اور کچھ دال موجود ہے! آپ نے بسم اللہ کر کے پکانے کا حکم دیا۔ کھانا تیار ہوا، اور لنگر جاری ہوا کھانے والے سیر ہو گئے اور کھانا بدستور موجود تھا۔ یہاں تک کہ بارش ختم گئی۔ تمام مستورات اپنے اپنے گھروں کو جانے لگیں تو آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سب کو حسب مراتب کپڑے دیئے، بارش نے سیٹھ کا مزاج درست کر دیا۔ گندم کا تمام ذخیرہ پانی میں بہہ گیا اور مکانات گر گئے۔

❖

حافظ محمد خاں مرحوم آپ کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے حضرت خواجہ ثانی قصور کی وفات حسرت آیات کے بعد ان پر ڈیرہ اسمعیل خاں میں ایک مقدمہ بن گیا۔ خود حافظ صاحب بیان کرتے ہیں کہ

”مجھے اس وقت حضرت خواجہ ثانی کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ مشکل وقت میں اپنے پیروں کو مدد کے لیے پکارنا چاہئے۔

بقول مولانا روم سے

دستِ پیر از غائبانہ کوتاہ نیست  
دستِ او جز قبضہ اللہ نیست

اُپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیر کا وصال ہو چکا ہو تو بھی وہ اپنے پکارنے والے کی مدد کرتے ہیں۔

حافظ محمد خاں کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس اُڑے وقت میں حضرت خواجہ ثانی کو مدد کے لیے پکارا کہ یا خواجہ! مدد کو پہنچئے، جب میں عشا کی نماز پڑھ کر سو گیا تو اُپ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا۔

حافظ صاحب! کیا سورہ مزمل کے پڑھنے کا طریقہ بھول گئے، اٹھو! اور پڑھو!

حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں فوراً بیدار ہوا۔ اُپ کے تعلیم کیے ہوئے طریقے کے مطابق سورہ مزمل تشریف پڑھنے لگا۔ چند راتیں ہی گزری تھیں کہ خواب میں پھر حضور کی زیارت ہوئی۔ اُپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب! اُپ کی اور اُپ کے ساتھیوں کی رہائی ہو جائے گی۔ رہا ہونے کے بعد شہر سے باہر چلے جانا۔ وہاں ایک مجذوبہ ایک گھوڑا لیے کھڑی ہوگی۔ اسے اشارہ سے بلانا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر کو چل پڑنا۔ اپنے شہر پہنچ کر گھوڑے کو شہر سے باہر ہی چھوڑ دینا اور خود گھر چلے جانا حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صبح اپنے ساتھیوں کو اس بشارت سے آگاہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہماری رہائی کا پروانہ آگیا۔ ٹھیک اُپ کے حکم کے مطابق ایک عورت گھوڑا لیے کھڑی نظر آئی۔ اس پر سوار ہو کر میں گھر پہنچا اور گھوڑے کو شہر سے باہر ہی چھوڑ دیا!

آپ نے اپنی وفات سے مکمل ایک سال قبل ہی اپنی رحلت کا ذکر فرمادیا تھا اکثر و بیشتر دوست احباب عقیدت مند اور مریدین جو عرس شریف پر حاضر تھے سب کو وعظ و نصیحت کر کے رخصت فرمایا اور کہا یوں نظر آتا ہے کہ آئندہ سال شاید تمہاری ملاقات میسر نہ ہوگی۔ اس وقت تم میں سے بعض حاضر ہیں اور بعض موجود نہیں۔ تم سب کو چاہئے کہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ پھر ہر ایک سے معاف کرتے اور رخصت فرماتے۔

اور پھر !

اس کے ٹھیک ایک سال بعد آپ اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو سدھارے

## وفات !

وفاتِ حشرت آیات سے قبل فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے ہمیں بھی وہی مرض لاحق ہوا ہے جو والد ماجد کو تھا۔ پھر اس مرض کی کیفیات بیان فرماتے کہ بظاہر اس بیماری کی کوئی علامت نہ تھی۔

وفات کے بعد لوگ خیال کرتے تھے کہ شاید سکتہ ہو گیا ہے۔ بیماری کی کوئی علامت بھی نظر نہ آتی تھی۔

در اصل وفات سے قبل آپ کا کلمہ مرض ارشاد فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھا، تاکہ لوگ اس فوری وصال اور مرگ کو مرگِ مفاجات خیال نہ کرنے لگیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "نعوذ باللہ من موت المفاجات" یعنی ہم مرگِ مفاجات سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

مرگِ مفاجات کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی عیش و نشاط میں انسان غرق ہو، اور موت اُن لے اور مرنے والا رجوعِ خرد و ندی اور توبہ سے محروم رہ جائے، ورنہ شہدائے کی وفات کو جو بغیر کسی مرض کے ہوتی ہے مرگِ مفاجات کا اطلاق ہوگا۔

آپ کی وفات ۲۱ محرم الحرام ۱۲۹۲ ہجری کو ۵۹ سال کی عمر میں ہوئی یہ سہ شنبہ کا دن تھا۔ ماہ محرم الحرام کے شروع سے ہی خالقِ ارض و سما کے خیردار کرنے کے سبب آپ نے دو وقت کا کھانا ترک کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آپ روزہ سے ہیں۔ وصال سے گیارہ روز قبل عاشورہ کے دن خادموں اور طالب علموں کے ہمراہ خانقاہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور خانقاہ شریف سے رخصت ہوتے وقت اس جگہ پر جہاں اس منظر کراماتِ بے انتہا کا مزارِ فیض آثار ہے لیٹ گئے۔ اور فرمایا کہ یہ جگہ نہایت عمدہ اور مناسب ہے۔ خادموں میں سے ایک نے خدمتِ عالیہ میں عرض کیا کہ حضور یہاں اس طرح لیٹنے کا کیا سبب تھا؟

جواب دیا کہ !

”اس طرح دراز ہونے کا راز اسی ماہ ظاہر ہو جائے گا۔“

آپ کے جلال اور بیعت کے سبب پھر کسی کو جرأتِ گفتار نہ ہوئی اور سب مُہربان رہے۔

آپ کی عادت مبارک تھی کہ سفر ہو یا حضر جمعہ کے روز وعظ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی سنتِ محمدی ہے۔ آخری جمعہ کے روز منبر پر چڑھے، تو رنگ ہی اور تھا۔ دنیا کے اس عارضی قیام کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ منزلِ قریب اچکی تھی۔ اب چل چلاؤ کا وقت تھا۔ چاہتے تھے کہ عقیدت مندوں

مریدین اور عوام الناس کو بھی اس دنیا سے فانی کی حقیقت سے آگاہ کریں اور ان کے دل معبود حقیقی کی طرف پھیر دیں۔

چنانچہ اس روز و عطا کا موضوع مولانا رومؒ کی وفات تھی۔ ان کی وفات اور نماز جنازہ کی تفصیل بیان فرمائی، گویا یہ اپنی وفات کی طرف واضح اشارہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ادبیاء و علماء ہر دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن وہ مر کر بھی نہیں مرتے، وہ اپنے دوستوں اور محبتوں کی امداد کے لیے موجود ہوتے ہیں اور پکارنے والوں کی آوازیں سنتے ہیں۔

وفات سے صرف تین روز قبل آپ نے اپنے دست مبارک سے خلفاً کو مکتوب تحریر کیا اور لکھا کہ :

”کارِ حیاتِ فقیر بالآخر رسید، چند روز  
مہلت است“

یعنی اس فقیر کی زندگی کا معاملہ آخر کو  
پہنچ گیا ہے اور چند روز کی مہلت ہے۔“

وفات سے قبل آپ نے حضرت خواجہ سید غلام حسین شاہ کو جو آپ کے داماد تھے اور آپ کے سجادہ نشین ہوئے، ان کے بڑے بھائی کی شادی پر بھیجا تھا۔ ان کا نام امیر حسین شاہ تھا۔ حضرت سید غلام حسین شاہ صاحب کا شادی میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا لیکن خواجہ ثانی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ شادی میں ضرور شامل ہوں۔

وفات سے تقریباً دو ماہ قبل کثرتِ بارش کے سبب ایک روز کے لیے بھی اپنے گھر مبارک سے قدم باہر نہ رکھا۔ آپ کے نواسے حضرت خواجہ حافظ بیگم شاہ صاحب

نمازِ ظہر کے بعد آپ سے کتاب صفوۃ المصادر پڑھا کرتے تھے۔ وہ بوستانِ معرفت میں لکھتے ہیں کہ وفات سے تقریباً دو ماہ قبل جب کہ آپ نے کثرتِ بارش کے سبب گھر سے نکلنا ترک کر دیا تھا۔ ایک گھر میں حاضرینِ مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ اس صاحبزادہ کی عمر کتنی ہے؟

فرمایا کہ تقریباً گیارہ سال۔

اور پھر فرمایا الحمد للہ کہ اس فقیر کو اپنے جدِ شریف کی سنت حاصل ہوئی ہے یعنی حضرت قبلہ عالم حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کے نواسے جناب سید احمد شاہ صاحب کی عمر بھی گیارہ سال تھی۔

وفات سے تین روز قبل آپ نے تین مکتوب لکھے ان میں سے ایک خط حضرت خواجہ مولانا غلام نبی للہی کے نام دوسرا خط حضرت حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کے نام یہ آپ کے ہم مکتب تھے اور تیسرا خط ساہیوال ضلع شاہ پور میں اپنے ایک عزیز کو لکھا تھا۔

۲۰۔ محرم الحرام کو آپ نے طلباء کو باقاعدہ درس دیا اور چاشت کے وقت تمام طلباء اور خدام سے فرمایا کہ ہم نے اب سفرِ آخرت کا ارادہ کر لیا ہے اب صرف ایک رات گھر میں رہیں گے لہذا تم اس امر سے آگاہ اور خبردار رہو۔ اس کے بعد مسجد شریف کے صحن میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ

”اے خانہ خدا!“

فقیر نے ایک مدت تک یہاں قیام کیا  
اور اس وقت لاشریک کی عبادت کی۔ اب

۱۸۵  
 آخری وقت آن پہنچا ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ  
 کے سپرد کرتا ہوں۔ تجھ سے وداع و رخصت  
 ہوتے ہیں بھیر مسجد کے کنویں کی طرف متوجہ  
 ہوئے اور رخصتی کلمات کہے۔

پھر فرمایا کہ

”خداوند کریم اپنے فضل عمیم سے اس مسجد کو  
 قیامت تک کے لیے آباد رکھے گا۔“

آپ کے مسجد سے رخصت ہونے کے منظر کو حضرت حافظ خواجہ سید محمد قصوری نے  
 ان الفاظ میں شعر کا جامہ پہنایا ہے۔

چوں حامی شریعتِ احمد و وداع کرو  
 بیت الصلوٰۃ را بخروشید آسماں  
 نگیریتند ارش و سما پر وداع او  
 کہ۔ مٹی قصور شد از فضلِ بکیراں

یعنی :

”جب احمد مجتبیٰ کی شریعت کے حامی نے مسجد کو الوداع کیا  
 تو آسمان شور کرنے لگا، اور اس کے وداع سے زمین و  
 آسمان گریہ کرنے لگے کہ اب قصور اللہ پاک بے انتہا فضل و کرم  
 سے خالی ہو گیا!“

اس کے بعد آپ مسجد سے باہر تشریف لائے۔ نواب آف مدوٹ نے آپ کو



ایک گھوڑی نذر میں دی تھی۔ اس گھوڑی پر سوار ہوئے اور شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ کام آپ کی عادت مبارک کے بالکل خلاف تھا۔ کیونکہ جب آپ سواری فرماتے تھے تو شہر کے باہر باہر ہا کر تے تھے اور جب بازار سے گزرنا ہوتا تھا تو رنج انور پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور جلدی جلدی گزر جاتے تھے لیکن اس روز بازار کے راستے تشریف لے گئے۔ اور موتیوں کی طرح چمکتا ہوا چہرہ بے نقاب تھا اور تمام مخلص اور اہل محبت نے آپ کے رنج انور کی زیارت کی۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ کوئی مخلص زیارت سے محروم نہ رہ جائے اور پھر رحلت کے بعد کفِ افسوس نہ ملے۔

جب گھر پہنچے تو گھوڑی سے نیچے اترے اور گھوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اور فرمایا کہ

”اے گھوڑی !

اب تجھ پر شاہ صاحب سواری

کریں گے۔ مہمِ رخصت ہوتے

ہیں !

پھر تمام ساتھیوں کو رخصت کیا۔

اور خود دولت خانہ کے اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ :

”ادب کی منزل خالی ہے ؟ آج رات ہم

وہاں آرام کریں گے۔“

پھر بالا خانے پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ :

”اس قدر بھاری جسم کا یہاں سے اترنا مشکل

ہوگا۔“

پھر فرمایا کہ جس خدائے پاک نے اُج تک تکلیف نہیں دی وہ اللہ اس وقت بھی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔

یہ سن کر خادموں نے عرض کی کہ حضور آپ تو بالکل تندرست ہیں یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔

اس کے جواب میں اس مردِ خداست نے کہ وہ واقفِ اسرار تھا، فرمایا کہ  
 ”انشاء اللہ تعالیٰ مزاج کی خیریت کل ظاہر ہو جائے گی۔“

پھر ارشاد فرمایا کہ

”اُج شبِ رحمتِ خداوندی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مگر صرف غریبِ غربا کی بخشش ہو رہی ہے!“

اس وقت مسی نظام الدین درویش حاضر خدمت تھا، آپ نے اسے موضعِ لیانی بھیجا کہ وہاں سے میاں روشن کو بلا لائے۔ میاں روشن عصر کے وقت حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فقیر نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا۔ وہ آج نصرتِ خداوندی سے پورا ہو رہا ہے۔ میاں روشن نے دستِ بستہ عرض کی۔ حضور! اس طلبی اور وعدہ ایغائی کی حقیقت کیا ہے؟

فرمایا۔ میاں روشن تم نے موضعِ رام داس ضلع امرتسر کے سفر کے دوران ایک مرتبہ محفل سے نارغ ہونے کے بعد فقیر سے گویہ وزاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”تم نے میرے والد ماجد کی بہت عرصہ تک خدمت کی لیکن تمہیں والدِ مکرم

کے نماز جنازہ میں شمولیت کی سعادت حاصل نہ ہو سکی اور اس کی حسرت  
 آج تک تمہارے دل میں کسک پیدا کر رہی ہے پھر تم نے کہا تھا کہ تم میری  
 خدمت میں بوڑھے اور سفید ریش ہو گئے اور دعا کرتے ہو کہ تمہاری وفات  
 میری زندگی میں ہو لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں اپنے آخری  
 وقت میں زیارت کا فیض بخشوں، بس یہی وعدہ ہے جو میں آج پورا کر  
 رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ انشاء اللہ ہر صورت میں یہ فقیر تمہیں اپنے آخری  
 وقت میں اطلاع دوں گا۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے لیکن ابھی کسی کو اس  
 بات سے آگاہ نہ کرنا، تاکہ گھر والے اور دوست و احباب گھبرانہ جائیں  
 اور گریہ و بکا نہ کریں۔“

حافظ امجد بخش صاحب نماز عشا سے فارغ ہونے کے بعد اس وریائے جو دوستی  
 کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور نے اپنے نواسہ حضرت صاحبزادہ حافظ  
 خواجہ سید محمد شاہ کو بھی بلا لیا۔ ان کی عمر اس وقت گیارہ برس کی تھی۔ حافظ صاحب کو  
 نصیحت فرمائی کہ اس وقت ہمارے پاس مبلغ یک صد روپیہ موجود ہے۔ ہماری تمہیز و  
 تکلفین کے بعد جو بچے اسے راہِ خدا میں صدقہ کر دینا۔

اس وقت علاقہ کے چند زمیندار حاضر ہوئے اور اپنے کسی مقصد کے لیے دعا  
 کے طالب ہوئے۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ چلے گئے۔ اس تمام رات بارش  
 ہوتی رہی۔ صبح کے وقت آپ نے میاں روشن دین سے پوچھا کہ صبح کا وقت ہو گیا

آپ نے فرمایا :-

"آج تمام رات اولیاء اللہ اور صالحین ہماری ملاقات کے لیے اُتے رہے ہیں اور رحمتِ الہی کی خوشخبری اور بشارت دیتے رہے ہیں۔ اب وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ غالباً صبح کا وقت ہو چکا ہے۔ اس وقت مؤذن نے مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اذان سننے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کی۔

نماز اشراق سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر حافظ اللہ بخش کو بلایا اور وہ کفن جو حاجی شہاب الدین صاحب مرحوم مکہ معظمہ سے آپ زمزم میں مہنگو کر لائے تھے اور اسے آپ کی نذر کیا تھا، حافظ اللہ بخش مرحوم کو دیا اور فرمایا کہ :

"یہ کفن تیاری کے لیے امام بخش ورزی کے سپرد کر دو، تاکہ بوقت ضرورت وقت نہ ہو۔"

حافظ صاحب حیران ہو گئے۔ لیکن ارشادِ عالی کے مطابق کپڑا لے لیا۔ چونکہ آپ بالکل تندرست تھے اس لیے حافظ اللہ بخش نے کفن کا کپڑا ورزی کو دینے کی بجائے اپنے پاس رکھا۔

حضرت صاحبزادہ حافظ خواجہ سید محمد شاہ صاحب تصنیف بستانِ معرفت میں یوں رقم طراز ہیں۔

"اس وقت اپنے آپنی کریمانہ عادات کے مطابق اس فقیر ناچیز کو دو عدد سنگیاں عطا فرمائیں۔ پھر وضو کرنے کا حکم دیا۔ یہ فقیر وضو کر کے اس منظرِ فیض کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ میاں روشن دین صاحب

اور حافظ اللہ بخش صاحب کی موجودگی میں آپ نے اپنے سر مبارک سے اپنی دستار مبارک اتار کر اس فقیر لاشے کے سر پر رکھ دی اور کتب خانہ کی چابیاں بھی عنایت فرمائیں۔ پھر متعدد نصیحتیں کیں، جن کا چھپانا ہی بہتر ہے۔

اللہ اللہ چہ عجب بود وجود

در جہاں مہر او کس نشود

اس وقت مسجد کے درویش اور کئی دوسرے غریب لوگ حضور کی خبر گیری کو آئے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کو کپڑے دیئے اور نقدی دے کر رخصت فرمایا۔ پھر حافظ صاحب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کوٹ فتح دین خاں والے حکیم ملاں چراغ دین کو جا کر بلا لائیں۔ چاشت کا وقت تھا کہ ملاں حکیم چراغ دین حافظ صاحب کے ہمراہ قدمبوسی کو تشریف لے آئے۔

آپ نے ملاں صاحب سے فرمایا :

”بارش کے سبب تم آنے میں توقف کر سکتے تھے اور خیل تھا کہ شاید تم نہ آؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم آگئے اور تم سے آخری ملاقات ہو گئی۔ اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا (یہاں حضور نے وعدے کی نوعیت اور تفصیل بیان نہیں کی)۔“

اس وقت حضور حافظ اللہ بخش صاحب کا سہارا لیے بیٹھے ہوئے تھے انہیں چودہ روپے دیئے اور فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی قرض ہمارے ذمے ہو تو ادا کر دو۔ پھر میاں روشن دین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تمام مخلصوں اور دوستوں کو اطلاع کرو کہ ہمارا آخری وقت ان پہنچا ہے کوئی ملاقات سے محروم نہ

رہ جائے۔

لیکن ملاں چیراخ الدین نے عرض کیا۔ قبلہ یہ کہنے کی کس میں سمیت ہے اور پھر آپ بالکل تندرست ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے حکیم صاحب سے فرمایا کہ ملاں صاحب صبح سے ہم نے پانی نہیں پیا۔ اب حالت نزع شروع ہو رہی ہے۔ سخت حدت اور گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ پانی کی خواہش اور طلب پیدا ہو گئی ہے پینے میں کوئی حرج تو نہیں؟

حکیم صاحب نے عرض کی کہ حضور آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ نبض اعتدال پر ہے۔ نزع کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی جس پر نزع کی کیفیت طاری ہو، اسے بٹھینے اور گفت گو کرنے کی سمیت نہیں ہوتی۔ رہا پانی کا معاملہ تو پانی پینے میں کوئی حرج نہیں، شوق سے نوش فرمائیے۔

آپ نے اس وقت پانی میں شند ملا کر پیا۔

پھر آپ حکیم صاحب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا :

”حکیم صاحب آپ کی وجہ سے ہمیں پانی نصیب ہوا ہے ورنہ ہم پانی پئے بغیر ہی سدھا جاتے۔“

پھر کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ

”اویا اللہ کی موت کو دوسروں کی موت کی طرح خیال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ خدائے بزرگ و بڑتر کا ارشاد ہے کہ جو لوگ راہ خداوندی میں جان دے دیں انہیں مردہ خیال نہ کرو۔“

پھر یہ شعر پڑھا

موتِ دلی ہیئتِ حیاتِ ابد

ہر کہ نہ اقرار کس گشتِ زد

یعنی : جو شخص ولی اللہ کی وفات کو ابدی زندگی نہیں مانتا، وہ مردود ہے۔“

پھر آپ نے ملاں حکیم چراغ الدین سے فرمایا کہ اپنی دلی آرزو بیان کرو۔ ملاں صاحب نے آپ کی ظاہری حالت جو کہ بالکل اطمینان بخش تھی دیکھ کر کوئی التماس نہ کی اور عرض کرنے لگے۔ حضور آپ کی نبض اچھی ہے آپ ایسے کلمات فرماتے ہیں؟

اس پر خواجہ ثانیؒ نے فرمایا کہ ہم پر نزع کی حالت طاری ہے۔ چل چلاؤ گا وقت ہے اور تم کہتے ہو کہ نبض بالکل ٹھیک ہے۔

حکیم صاحب نے عرض کیا حضور! آج تک کسی شخص کو نزع کی حالت میں یوں نہیں دیکھا کہ نبض بالکل اعتدال پر ہو، ہوش و حواس قائم ہوں، حرارتِ غریزی درست ہو، اور اس طرح بات چیت بھی کرتا ہو۔

آپ نے فرمایا اچھا آج دیکھ لینا۔

یہ سن کر حکیم صاحب گھبرائے اور حافظ صاحب سے کہنے لگے کہ حضور کے لیے کوئی مفرح مرکب تیار کر کے لانا چاہئے، تاکہ طبیعت مبارک میں سکون پیدا ہو۔

دونوں حضرات فوراً بازار روانہ ہونے کے لیے اٹھے۔ آپ نے منع فرمایا لیکن اجازت حاصل کر کے وہ چلے گئے۔ ابھی یہ دونوں بزرگ چند قدم گئے ہونگے

حضور یکایک رونے لگے اور زبانِ درفشاں پر یہ الفاظ جاری تھے :

”اے پروردگارِ عالم !

تو غنی، عاقل، جابر اور تمہارے۔

اے مالکِ دو جہاں !

تیرے عدل سے خوف آتا ہے۔

کیونکہ !

ہمارے گناہ، ہماری نیکیوں سے بہت

زیادہ ہیں !

پھر ایک لمحہ کے بعد آپ سہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ :

”اللہ کریم کی رحمت کے دروازے کھل

گئے ہیں اور اکثر ہم غریب مسلمان اللہ پاک

کی رحمت کے صدقے کامیاب و بامراد

ہو رہے ہیں اور دنیا دار قلیل، قلیل، قلیل“

اس کے بعد آپ اس کلمہ پاک کو مکمل طور پر پڑھتے رہے۔

”اٰمَنَّا بِاَمْرِكَ مَا هُوَ بِاَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ وَ

قَبَلَتْ حَمِيْعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارًا بِالْاِسْمِ

وَ تَصْدِيْقًا بِالْقَلْبِ !“

اور فرماتے تھے کہ ہماری اس شہادت پر گواہ رہو۔ اور آخری دم اَشْهَدُ اَنْ  
مُعَدَّ عِبَادًا وَ رَسُوْلًا ۝ پر تھا کہ واقعہ فرمایا اور امانتِ حقیقی



مالکِ حقیقی کے سپرد فرمائی یعنی جانِ جانِ آفریں کے حوالے کی۔

یہ اکیس<sup>۱</sup> محرم الحرام ۱۲۹۴ھ سے شنبہ کا دن تھا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

فوراً حافظ صاحب اور حکیم صاحب کو واپس بلا یا گیا۔ اس وقت میاں روشن

آپ کا منور و مظهر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور زبان سے کتے تھے۔

”حضرت جی! حضرت جی!“

حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھا تو رونے لگے اور کہا

”اے امنوس، شہباز ہم میں سے پرواز

کر گیا اور وہی کچھ ظاہر ہوا جو کچھ آپ

فرماتے تھے۔“

پھر ان دونوں حضرات نے آپ کو چار پائی پر لٹا دیا اور کفِ امنوس ملنے لگے۔

بارش جو کہ حضور کی دعا سے شروع ہوئی تھی اب تک جاری تھی۔ جو نبی آپ کی وفات

کی خبر لوگوں تک پہنچی، ہر طرف گریہ و آہ و بکا کا شور بلند ہوا۔ حضرت صاحبزادہ خواجہ

حافظ سید محمد شاہ صاحب نے اس وقت کے حسبِ حال چند اشعار کہے ہیں، جو کہ

ہر یہ قارئین ہیں:

وقتِ وفاتِ حضرتِ ماکثرہ ناگہاں

برارضِ دستِ خیزِ پانیز پر زماں

کردہ حجابِ شمس ز غمناکیِ وفات

سیلاب پرز میں شدہ از اشکِ آسماں  
 در ماتمش سیاہ فلکِ کرو پیرین  
 کاں آفتاب ورتہ این خاک شد نہاں  
 از بسکہ رعیتِ خون ز غمش چشمِ آسماں  
 یک صبح و شام غرق ایم خون شدہ جہاں  
 با دسموم سوخت نہالانِ ہرچمن  
 آمد بگلستانِ جہاں از الم حستان

آپ کی وفاتِ دل شکاف کا یہ واقعہ عصر کے وقت رونما ہوا۔ ایک تو بارش  
 کے سبب اور دوسرے جناب حافظ غلام مصطفیٰ خان صاحب اور مولانا غلام دستگیر  
 صاحب اس وقت فیروز پور میں تشریف رکھتے تھے ان کی واپسی کے انتظار میں حضور  
 کی نماز جنازہ دوسرے روز ظہر کے وقت ادا کی گئی۔ قصور اور گردونواح کے ہزاروں  
 افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ حدِ بیان سے باہر  
 ہے۔ حضرت مولانا دستگیر صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت امام شاہ صاحب جو بچپن سے ہی مجذوب تھے اور قصور میں تشریف رکھتے  
 تھے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، چہرہ مبارک کی زیارت کی اور فرمانے لگے کہ اپنے  
 وقت کے قطب اور زمانے کے عوث انتقال فرما گئے۔ جب تک آپ کے جسدِ مبارک  
 کو لحد میں نہیں اتارا گیا شاہ صاحب ہی کلمہ کہتے رہے۔

آپ کو قصور شریف کے عظیم قبرستان اپنے بزرگوں کے قریب عین اسی جگہ دفن  
 کیا گیا جہاں آپ وفات سے گیارہ روز قبل ورازا ہوئے تھے، اس آفتابِ رشد و ہدایت

کے سرزمینِ قصور پُر نور سے روپوش ہوتے ہی آفتابِ عالمتاب نے بھی حسرت و افسوس سے چہرہ چھپا لیا۔ گویا آپ کے دفن ہونے کے وقت عالم میں ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔

وادرینیا منظرِ جو دو کرم

گشتِ محفنی و دلِ ماخوردہ غم

وفات کا حال ایک اردو نظم کی صورت میں مزارِ پُر انوار و فیضِ آثار کے سرہانے لکھا ہوا ہے۔ کتبے کا آخری شعر جس سے آپ کی تاریخِ وفات نکلتی ہے یہ ہے۔

لکھی تاریخ تو ہاتھ نے براہِ افسوس  
یوں کہا، کیسے ہوئی حشر سے پہلے محشر

۱۲۹۴ ہجری

مزارِ پُر انوار کے سرہانے ایک عربی قطعہ مولوی غلام قادر رسول نگری کا لکھا ہوا

الاعبدالرسول الشیخ قدمات

ہے

هو الكامل بلا نقص ولا عیب

فان تسئلن عن عام ارتحالہ!

اقل تاریخہ خوف بلا ریب

۱۵۰۶ - ۲۱۲ = ۱۲۹۴ھ

مولوی محبوب عالم سولہوی نے فارسی میں آپ کی تاریخِ وفات یوں کہی ہے:

کرد رحلت باوج علیین!

پیر عبدالرسول فخرالدین

ساقی کوثر رسول امین

گفت عالم ز سال رحلت تو

۱۲۹۴ھ

# مولانا خواجہ غلام نبی صاحب لکھی پُستہ

حضرت مولانا غلام نبی صاحب اللہ ضلع جہلم ملک پنجاب ۱۲۳۴ھ میں پیدا ہوئے۔ جب سن تعلیم کو پہنچے۔ مکتب میں داخل ہوئے۔ صرف نحو میر قسطنطینی، شرح و قیامہ خیالی وغیرہ اپنے والد بزرگوار اور بعض دیگر علما قرب و جوار سے پڑھیں۔ بعد ازاں پشاور میں حضرت مفتی محمد احسن صاحب مرحوم و حافظ دراز صاحب سے تمام معقول و منقول ختم کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ دولت خانہ پر آکر مسند آرائے درس و تدریس ہوئے کہ اسی اثنا میں یکایک شوق الہی آپ کے دل پر غالب ہوا۔ اور آپ مرشد کی تلاش میں گھر سے روانہ ہوئے کہ جس جگہ کوئی صاحب دولت ملے اس سے بیعت کروں۔ اتفاقاً بمقام شاہ پور حضرت مولانا خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری خلیفہ اجل حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی قدس سرہ سے ملاقات ہو گئی اور بعد استخارہ انہیں سے بیعت ہو گئے۔ حضرت مولانا نے ایک ماہ آپ کو توجہ فرمائی اور پھر ایک دن

آپ کو علیحدہ لے گئے اور فرمایا کہ حضرت شاہ غلام علی صاحبؒ ملے تھے اور فرماتے تھے کہ مولوی غلام نبیؒ کو کلاہ اجازت دے دو۔ (یہ واقعہ کا معاملہ ہے) چنانچہ یہ کلاہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ کو کلاہ عطا فرمائی۔ اور طریق توجہ وہی بھی تعلیم فرمایا اور اس کے بعد عرصہ قلیل میں تمام مقامات مجددیہ ملے کر اگر دستارِ خلافت و بشارت حصول نسبت خاصہ سے سرفراز فرمایا اور بعض خلعت پیش گاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دلو کر رخصت فرمایا۔ اتنا سلوک میں آپ کا مراقبہ کمالاتِ نبوت تھا۔ آپ کو شوقِ حفظِ کلامِ مجید ہوا۔ چنانچہ آپ نے چھ ماہ میں یاد کر کے تراویح میں سنا دیا آپ قرآن شریف نہایت بخوبی اور ترتیل سے پڑھتے تھے اور اس قدر یاد تھا، کہ گاہ گاہ ایک شب میں بھی سنا دیتے تھے۔

حضرت کچھ مدت دولت خانہ پر قیام فرما کر پھر بمقامِ قصور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولاناؒ بمال عنایت پیش از پیش پیش آئے اور اکثر طالبین کو تربیت کے واسطے آپ کے سپرد کیا۔ اسی اثنا میں حضرت مولاناؒ کا انتقال ہو گیا اور حضرت دولت خانہ پر مراجعت فرما کر مصروفِ ہدایت خلیق اللہ و اشاعتِ علمِ ظاہری و باطنی ہوئے۔ آپ کی خدمت میں ستر اسی طلبائے علمِ ظاہری و باطنی کا مجمع رہا کرتا تھا۔

## معمولات !

آپ کا معمول تھا کہ رات کے دو بجے بیدار ہوتے، بعد اجابتِ غسل فرما کر نمازِ پنجگاہ پڑھتے۔ اس وقت کا غسل کسی موسم میں کسی وقت روزِ انتقال تک ناغہ نہیں ہوا۔

اکثر نجد میں قرآن شریف کی منزل پڑھتے تھے۔ بعد نماز طلبہ کو سبق پڑھانا شروع کرتے۔ پڑھانے میں امتیاز نہ تھا کہ بڑی کتاب ہو، پند نامہ فرید الدین عطار بھی پڑھانے اور ہدایہ اور بیضاوی شریف بھی! جس کتاب کو پڑھاتے اس کے جمیع حواشی اور شروع سامنے رکھ لیتے اور ہر ایک کو دیکھتے جاتے۔ حواشی اور شروع پر رجوع کا اس قدر خیال تھا کہ سکندر نامہ وزینجا کی شرح بھی سامنے رکھ لیتے۔

صبح کی سنتوں کے وقت تک پڑھاتے۔ بعد ازاں نماز صبح پڑھتے۔ امامت خود کرتے اور اس میں قرأت طوال مفصل پڑھتے۔ بعد نماز آیتہ الکرسی و دعوات ماثورہ پڑھ کر دعا مانگتے۔ بعد ازاں پچیس مرتبہ استغفار، دو مرتبہ الحمد شریف اور تین مرتبہ قل شریف پڑھ کر پیرانِ طریقت کی ارواحِ پاک پر ثواب پہنچاتے۔ اس اثنا میں خدام حلقہ باندھ کر گرو بیٹھ جاتے۔ آپ نوبت بہ نوبت سب کو توجہ فرماتے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا الحمد للہ اس قدر بلند آواز سے کہ حاضرین سن لیں پڑھ کر فاتحہ پڑھتے اور نماز اشراق کو کھڑے ہوتے۔ چار رکعت دو سلام سے پڑھتے اور گاہ گاہ بعد ختم حلقہ ذکر اور بیار کرام و مشائخ عظام و معارف طریقیہ سے حاضرین کو سزنا کی کیفیت فرماتے۔

برخاست حلقہ پر طالبین و خود حضرت پر عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ کسی پر ذوق و شوق غالب ہوتا تھا کوئی مغلوب نسبت استہلاک و اضمحلال ہوتا تھا۔ کسی پر چالتِ عروج وارد ہوتی تھی اور کوئی نزول نسبت ولایات سے مرشار ہوتا۔ کوئی کمالات سے مالا مال اور کوئی حقائق سے بہرہ یاب اور حضرت مثل محبوب رعنا چشم میگوں جس کی طرف دیکھتے تھے کچھ اور ہی لطف دیتا تھا۔

بعد نماز اشراق دعا حزب البحر پڑھتے۔ بعد ازاں پھر طلباً کو پڑھانا شروع کرتے اور یہ شغل دس بجے تک رہتا۔ بعد دس بجے گھر میں کھانا کھانے تشریف لے جاتے۔ اور وہاں پہنچ کر اول درویشوں کے واسطے کھانا بھجواتے اور خود بعد تناول طعام حلقہ نساء قریب ایک گھنٹہ کے فرماتے۔

نساء کی توجہ کا اس طرح معمول تھا کہ ایک چار پائی پر چادر ڈال کر اپنے سامنے کھڑی کر لیتے، اس کی اڑ میں مستورات آکر بیٹھ جاتیں اور ایک کپڑا ایک طرف سے آپ پکڑ لیتے تھے اور اس کا دوسرا کنارہ چار پائی کی اڑ میں طالبہ پکڑ لیتی تھی۔

بعد حلقہ نساء آپ باہر تشریف لاتے اور قبیلہ فرماتے اور جس وقت مؤذن اذان کتنا فی الفور بلاتا مل اٹھ بیٹھتے اور اس کی اجابت کرتے۔ آپ مسواک کے استعمال میں کبھی تاغہ نہ فرماتے۔

اس کے بعد نماز ظہر پڑھتے۔

اور بعد نماز طلباً کو عصر کی اذان تک سبق پڑھاتے یا حلقہ فرماتے۔ بعد ازاں نماز عصر پڑھتے اور بعد اس نماز کے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم پڑھا جاتا۔ اس کی ترکیب یہ تھی :

اول آخر درود شریف سو سو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ہزار مرتبہ پڑھتے۔ پھر صرف لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ نوسو مرتبہ۔ بعد لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سو مرتبہ پھر درود

شریف پڑھتے۔ اس کے بعد حلقہ فرماتے اور توجہ کرتے اور مغرب کے قریب

تک یہ شغل رہتا۔ بعد ختم حلقہ حاضرین ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کرتے پھر

حاضر ہوتے کہ اتنے میں مغرب کی اذان ہوتی اور نماز پڑھی جاتی۔ بعد نماز ختم خواجگان  
 کہ حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی و حضرت خواجہ عارف ریوگری و حضرت خواجہ محمود انجیر  
 فغنوی و حضرت خواجہ عزیزاں علی رامیتنی و حضرت خواجہ محمد بابا ساسی و حضرت خواجہ  
 امیر کمال و حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہم کی طرف منسوب ہے۔  
 اس طرح پڑھا جاتا اور سورہ فاتحہ سات مرتبہ بعد ازاں درود شریف سو مرتبہ،  
 بعد ازاں اسمِ نشرح اُناسی مرتبہ، بعد ازاں سورہ اخلاص ہزار مرتبہ، بعد ازاں  
 سورہ فاتحہ سات مرتبہ اور پھر درود شریف سو مرتبہ۔

اس وقت مریدین ختم پڑھتے اور خود نماز ادا بین میں مشغول رہتے اور بعد ختم  
 ادا بین آپ بھی ختم خوانی میں مشغول ہو جاتے۔

## حلقہ !

بعد ختم حلقہ فرماتے۔

اور اکثر اسی وقت طالبین کو داخل طریق بھی فرمایا کرتے۔ اور اس کا یہ طریقہ  
 تھا کہ طالب کو اپنے رُو برو بٹھا کر اس کا ہاتھ مثل مصافحہ کے اپنے ہاتھ میں لے کر  
 اَدل توبہ واستغفار پڑھاتے۔ بعد ازاں کلمہ توحید و شہادت تعلیم فرماتے۔  
 آپ کا اکثر یہ معمول تھا کہ طالب کو قادیہ طریق میں داخل کرتے اور سلوک  
 مجددیہ طے کراتے۔ کیونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا  
 مقولہ ہے کہ

”عنوانِ طریقِ مجددیہ یہ قرار پایا ہے کہ



۲۰۴  
چاہے جس طریقہ میں داخل کرے مگر سلوک  
محبّہ دی طے کرائے۔

بعد داخل طریق کرنے کے طالب کو اوّل خود توجہ فرماتے۔ بعد ازاں کسی مجاز کو  
سپرد فرماتے کہ اس کے جمیع لطائف میں ذکر جاری کر دے۔ بعد داخل طریق کرنے  
کے طالب کو تاکید فرماتے کہ ہر لحظہ اور ہر ساعت قلب سے ذکر اسم ذات کا  
خیال رکھے۔ اس وقت کا حلقہ قریب عشا کے ختم ہوتا۔

ایام رمضان المبارک میں نصف شب کے بعد باہر تشریف لاتے اور حسب معمول  
غسل و نماز تہجد سے فارغ ہو کر قرآن شریف کا دور شروع کرتے اور جب سحری  
کا بالکل آخری وقت ہوتا۔ دور موقوف کر کے سحری کھاتے اور بعد ازاں پھر  
دور شروع کرتے یہاں تک کہ فجر کی سنتوں کا وقت ہو جاتا۔ اس وقت نماز صبح  
پڑھتے اور حسب معمول اشراق تک حلقہ فرماتے اور بعد نماز اشراق پھر دور شروع  
کرتے اور دوپہر تک دور کرتے رہتے۔ غرض کہ رمضان شریف میں سوائے  
حلقہ توجہ جملہ مشاغل ترک کر دیتے اور نصف شب سے مغرب کے وقت تک برابر  
قرآن شریف کا دور کیا کرتے۔

ایام رمضان مبارک میں آپ کبھی دن کو قضاے حاجت کو نہ جاتے کہ استنجا  
دن کو نہ کرنا پڑے اور یہ کمال احتیاط تھی۔ جمعہ کے روز بعد نماز عصر کے وقت تک  
وعظ فرماتے اور بعد عصر اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کو جاتے۔ سفر میں ہمیشہ  
بعد عصر وعظ فرماتے۔

اور ہر طرح کے پند و نصائح فرماتے۔

## عادات !

کھانے پینے میں نہایت احتیاط رکھتے تھے۔ جنگل میں ایک تالاب تھا اکثر اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے میں کبھی پانی نہیں پیا کرتے تھے بعد ظہر نوش فرماتے۔ ایک خادم کا معمول تھا کہ بعد نماز تازہ پانی لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ پانی لایا تو آپ نے اس کے پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ پانی مکدر ہے۔ کوئی اور شخص پانی لے آئے۔ چنانچہ جب دوسرا شخص پانی لایا تب آپ نے پیا۔

شخص اول سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے جو تیرا پانی نہیں پیا اور اس کو مکدر فرمایا۔

اس نے جواب دیا کہ راہ میں میری نظر ایک نامحرم عورت پر پڑ گئی تھی۔ آپ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے۔ فرمایا کہ مجھ کو یاد نہیں کہ کبھی میں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ فرماتے، میرے نزدیک تازہ اور باسی سب یکساں ہے۔ آپ نہایت منکسر مزاج تھے اور بسا اوقات بھرے ہوئے مجمع میں اپنی نسبت ایسی بات فرما دیتے تھے کہ سن کر شرم آجاتی تھی۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ آپ تشریف لے جاتے تھے۔ جب وہ جگہ قریب رہ گئی تو بہت سے لوگ آپ کے استقبال کو اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہجوم سے کچھ فخر نہیں کرنا چاہئے اگر کوئی بندر یا ریچھ والا کسی گاؤں میں آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی لوگ ہو جاتے ہیں۔

پیران سلسلہ کی اولاد یا ان کے شہر کا بھی کوئی رہنے والا ہوتا تھا اس کی بھی

نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص دہلی کی جانب کا رہنے والا آپ کے پاس رہا کرتا تھا چونکہ دہلی میں بعض حضرات کے مزار مبارک ہیں اور وہ اس کے جوار کا رہنے والا تھا۔ اس رعایت سے اس کی خاطر داری فرماتے۔

## طریقِ بیعت و خلافت !

سلوک طے کرانے میں حضرت کا خیال طالب کے حالات ظاہری استعداد باطنی پر ہوتا۔ بعض آدمی جو اس جگہ رہا کرتے تھے اور متوسط الاستعداد ہوتے تھے ان کو چودہ پندرہ سال میں طے کراتے تھے اور بعض جو باہر کے رہنے والے ہوتے تھے اور سال میں دو چار مرتبہ آسکتے اور تھوڑا بہت قیام بھی کر سکتے تھے ان کو سات آٹھ سال میں اور بعض جو دروازہ جگہ کے رہنے والے ہوتے اور پھر ان کا آنا و سوار ہوتا ان کو تین چار سال ایک ہی مرتبہ رکھ کر رخصت فرماتے اور بعض کہ عیالدار ہوتے وہ زیادہ رہ بھی نہیں سکتے تھے ان کا دو سال میں بھی بلکہ بعض کو ایک سال میں سلوک ختم کرایا ہے۔ اور ایک شخص کہ نہایت کامل الاستعداد تھا اس کو صرف ایک مہینے میں تا معبودیت مطلقہ اور ایک شخص کو صرف سات سات توجہ ہر مقام پر کر کے سلوک طے کرایا اور ہر دو نے بہت اچھی طرح ہر ایک مقام کا امتیاز بخوبی کیا اور فی واقعہ یہ حضرت کے اعظم تصرفات سے ہے۔

حضرت نے تین منہم کی اجازت مقرر کی تھی :

جس وقت طالب ولایت کبریٰ تک پہنچ جاتا۔ اجازت صغریٰ بچھائے کلاہ  
 بنشتے اور جس وقت کمالات نبوت پر پہنچتا تو اجازت کبریٰ عطا فرماتے اور متبرک  
 پیہ بن بختے اور جس وقت تمام مقامات ختم ہو جاتے دستارِ خلافت و اجازت  
 مطلقہ بختے !

## کرامات !

ایک مرتبہ ایک شخص نے غیر منکوحہ عورت اپنے گھر میں رکھ چھوڑی تھی ہرج  
 اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ اسی اثنا میں اساک بارش ہوئی اور اساک کو بھی طول کھینچ  
 گیا۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آپ نے فرمایا جب تک وہ شخص اس عورت کو نہیں نکالے گا بارش نہیں ہوگی  
 بعض نے کہا کہ اگر اس شخص سے عورت کو نکلوا دیں اور پھر بھی بارش نہ ہو تو ؟  
 آپ نے فرمایا پھر ہماری بات کا اعتبار نہ کیا کرنا۔

چنانچہ وہ لوگ جا کر اس عورت کو نکلوا آئے۔ اور آپ سے عرض کیا کہ آپ اب  
 بارش کی مہیا و مقرر کریں۔

اس وقت رمضان شریف کا آخری عشرہ تھا۔

آپ نے فرمایا کہ اس عشرہ کی طاق تاریخوں میں بارش ہو جائے تب تو جاننا کہ  
 اسی گناہ کی شومی سے بارش بند تھی اور اگر رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد ہوا

اتفاقی بات ہے۔

چنانچہ، ہر رمضان کو اس قدر بارش ہوئی کہ تمام جل قتل ہو گئے۔

اسی طرح !

ایک مرتبہ اور امساک بارش ہوئی۔

لوگوں نے آپ سے اُکْر عرض کیا کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بارش کرے۔ آپ

نے فرمایا کہ مسجد کو گارہ سے لپیپ دو۔ بارش انشا اللہ تعالیٰ ہوگی۔

لوگوں نے عرض کیا تالاب میں گارہ ہی نہیں کس چیز سے لپیپا جائے۔

آپ نے دعا فرمائی

”خداوندا !

اس قدر بارش کو دے کہ تالاب میں

گارہ ہو جائے۔“

لوگوں نے عرض کی کہ حضرت زیادہ کے واسطے دعا مانگیئے۔

آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اپنے کام میں لگ جاؤ گے اور اس کا خیال نہیں رکھو

گے !

عرض کہ اس قدر بارش ہوئی کہ تالاب میں گارہ ہو گیا اور لوگوں نے مسجد لپیپ

دی۔ بعد ازاں پھر خوب بارش ہوئی۔

ۛ

ایک مرتبہ آپ نے اکثر لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا :

”تم لوگ اپنے اعمال درست کرو، اور

گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ تم پر سخت  
مصیبت آنے والی ہے، گناہوں کے  
ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے ہم بھی تمہارے  
ساتھ ہی ہیں۔"

مگر کسی نے چنداں خیال نہ کیا۔ اور آپ قریب سال بھر کے فرماتے رہے کہ  
ہمیشہ بیمار ہو جاؤ، گناہوں سے بچو ورنہ عذاب آنے والا ہے،  
بالآخر ویسا پیدا ہو گئی اور ہر روز بہتر، اسی آدمی مرنے لگے۔ معلوم ہوتا تھا  
کہ کوئی آدمی زندہ نہ رہے گا حتیٰ کہ آپ کے چھوٹے صاحبزادہ کا بھی انتقال ہو  
گیا۔

لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ  
اس بلا سے نجات دے۔  
آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرو۔  
سب توبہ کرنے لگے۔

آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں بلکہ فلاں فلاں جو فاسق ملعن ہیں ان سے  
توبہ کراؤ یا ان سے میل جول چھوڑ دو۔  
چنانچہ لوگوں نے ان سب سے توبہ کرا کے آپ کی خدمت میں دعا کے  
واسطے عرض کیا۔

آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد کوئی تازہ بیمار نہ ہوا، اور جو بیمار تھے  
ان کو صحت ہوئی۔

ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کی شادی کو عرصہ بیس سال کا گزر چکا تھا مگر اب تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی کہ اولاد نہیں ہوتی اس لیے اگر آپ اجازت فرمائیں تو نکاحِ ثانی کر لوں۔  
آپ نے فرمایا کہ اس سال اور صبر کرو۔

اور پھر بفضلہ تعالیٰ اسی سال اس کے لڑکا پیدا ہوا۔



ایک مرتبہ آپ کا ایک خادم دریائے جہلم میں کشتی پر سوار تھا۔ شام کا وقت ہو گیا کہ دفعۃً آندھی آئی اور قریب تھا کہ کشتی غرق ہو۔ سب لوگوں کے حواس جاتے رہے اس شخص نے دیکھا کہ آپ کشتی کو سمجھالے ہوئے ہیں اسی وقت سب کی تسلی کی کہ انشاء اللہ تعالیٰ خیریت ہے۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ وہ کشتی بحیرتِ تمام پار ہو گئی۔



ایک شخص نے اُکو اپنے لڑکے کی شکایت کی کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھی طرح نہیں رہتا۔ اس کو سمجھا دیجئے۔

جب اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو سمجھایا۔  
اس نے عرض کی کہ حضرت میری طبیعت اس کی جانب رجوع نہیں ہوتی۔  
آپ نے فرمایا کہ تیری زوجہ کی عمر صرف چھ مہینے کی رہ گئی ہے۔

چنانچہ یہ سن کر اس نے اپنی بیوی کی نہایت خاطر و مدارات شروع کر دی اور وہ اس سے بہت راضی ہوئی۔ اسی اثنا میں وہ بیمار ہو گئی اور مہینہ ڈیڑھ

بیمار ہو کر چھٹے مہینے مر گئی۔

ایک شخص نے آپ سے آکر عرض کیا کہ میں نے اپنے لڑکے کی فلاں شخص کی لڑکی سے نسبت ٹھہرانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟  
 آپ نے فرمایا کہ وہاں شادی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔  
 لیکن چونکہ اس لڑکی کا باپ دولت مند تھا اس نے وہیں اپنے لڑکے کی شادی کر دی۔ آخر کار اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور وہ لڑکی عظیم نکلی۔

ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے غلام زاوہ تولد ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟

آپ نے فرمایا اس کا یہ نام رکھو۔ اور اب کی مرتبہ جو پیدا ہوگا، اس کا یہ نام رکھنا۔

چنانچہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو اس شخص نے آکر عرض کیا کہ اس نام کا غلام زاوہ پیدا ہو گیا ہے۔

آپ نے فرمایا، اب کی مرتبہ جو ہوگا اس کا یہ نام رکھنا۔  
 اور پھر وہ بھی ہوا۔

غرض کہ اس طرح آپ نے چار لڑکوں کے نام پہلے ہی سے رکھ رکھ دیئے اور وہ سب لڑکے پیدا ہوئے۔



## نصائح :

آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں شرط اجازت ہیں :

- ۱۔ علم
- ۲۔ عقل
- ۳۔ تقبل

فرمایا اگر کسی صاحبِ ہمت کو کوئی ایذا پہنچائے تو یہ نہیں چاہئے کہ اس کے انتقام کے واسطے ہمت باطنی لگائے۔

فرمایا صبر و شکیبائی چاہئے۔

فرمایا اس زمانہ میں چونکہ لوگوں کی ہمت و طلب بہت قاصر ہو گئی ہے۔

بعض کو جلد اجازت دیتا ہوں۔ طالب کو چاہئے کہ اس اجازت و خلافت پر غرہ نہ ہو، مقصود کچھ اور ہی ہے۔ چاہئے کہ اپنی جگہ جا کر ہمیشہ فکر و فکر و حفظ نسبت و اتباع شریعت و عمل بر عزیمت و اجتناب از رخصت و استقامت بر طریقت و محبت پیران سلسلہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قائم ہو۔

فرمایا کہ پیران کبار قدس اللہ اسرارہم کار کا معمول تھا کہ اگر طالب سے لغزش

ہو جاتی تھی۔ اس کو تنبیہ اور سرزنش فرماتے۔ اور جب تک وہ توبہ نصوح نہ

کرتا اس پر ملتفت نہ ہوتے لیکن فقیر اعراض باطن ہی پر اکتفا کرتا ہے۔ اور

ظاہر میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر طالب تغیر احوال سے متنبہ ہو گیا تو خیر ورنہ ظاہر ہی

اعراض میں کیا جاتا ہے کہ تائب ہو جائے۔

فرمایا کہ تربیت باطنی جلالی و جمالی بہر دو وضع سے چاہئے جس شیخ میں یہ دونوں اوصاف ہوتے ہیں اس سے جلد فائدہ پہنچتا ہے۔  
 فرمایا کہ مرید نارسیدہ مثل طفل شیرخوار ہے کہ اگر قبل از ایام رضاعت اپنی والدہ سے علیحدہ ہو جائے تو اس کی نشوونما میں فرق آجائے گا۔ اسی طرح اگر مرید قبل از وقت پیر سے علیحدہ ہوگا ناقص و ابتر رہ جائے گا۔  
 فرمایا کہ باوجود تحصیل نسبت باطن اگر کسی شخص کے اخلاق درست نہ ہوں وہ قابل اجازت نہیں ہے۔

فرمایا کہ اگرچہ میں بعض اوقات جلد اجازت دے دیتا ہوں مگر وہ باعث ضرورت و مصلحت مقید بشرط ہوتی ہے

### وانافات البشرط فاف

#### المشروط !

فرمایا کہ محبت مشائخ علیہم الرضوان اقوی ذریعہ وصول الی اللہ کا ہے  
 فرمایا مبتدی کو جس قدر نکاح مضر ہے دوسری چیز نہیں ہے۔

فرمایا کہ طالب خدا کو اغنیاء کی صحبت سمّ قاتل ہے۔

فرمایا کہ توحید و جود معارف قلبیہ اور علوم اہل ولایت سے ہے لیکن اصل چیز اس سے علیحدہ ہے۔ وہاں العبد عبد و اللہ رب کا ظہور ہوتا ہے اور یہی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا مذہب تھا اور توحید و جود کو شریعت سے بلا تاویل تطبیق ممکن نہیں ہے جیسے کہ بعض کہنے نے کیا ہے اور بدوں تاویل اس کو عین شریعت سمجھنا اور مشارب انبیاء علیہم السلام و

صحابہ کرام سمجھنا تاوانی ہے۔ اور مغلوب الحال معذور ہے۔  
 فرمایا کہ سوز عشق مجاز مثل سوز سرگین ہوتا ہے اور سوز عشق حقیقی مثل  
 سوز صندل وعود ہوتا ہے۔

فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی اور طریقہ میں بیعت کی ہو۔ اور پھر چاہے کہ  
 اس طریقہ مجددیہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ کیونکہ مقصود خدا ہے اور یہ طریقہ  
 جملہ طریق میں اقرب ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں اور طریقوں کا نام ہی نام  
 رہ گیا ہے۔ پس طالب حقیقی کو لازم ہے کہ طریقہ شریفہ کا ملتزم ہو۔  
 فرمایا کہ انسان کی آفرینش سے علت غائی تحصیل معرفت ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أَيْ

لِيَعْرِفُونِ .

اور منشا پیری و مریدی حصول معرفت ہے۔ اور اگر حصول معرفت نہ ہووے  
 وہ پیری مریدی بالکل بیکار ہے۔ پس چاہئے کہ اس تلاش میں رہے اگر پیر اول  
 سے حاصل نہیں ہوا۔ بلا تردد اس کی جانب رجوع کرے ورنہ تارک عمل  
 آیت شریفہ مذکورہ بالا ہوگا۔

فرمایا کہ تحصیل علوم ضروری ہے اور سلوک صوفیہ پر مقدم ہے اور اس کے  
 بعد سلوک باطن گویا فرض ہے۔

فرمایا کہ صحبت مشائخ خلاف شرع وحدت وجود کہنے والوں سے علیحدہ

رہنا چاہئے۔

فرمایا کہ جس کسی کو پیر اپنا جانشین قائم کرے، اس کی تعظیم و تکریم لازم رکھے۔

فرمایا کہ طالب تلاش اصل نسبت مجددی کی رکھے اور کسی جگہ اگر رجوعِ خلافت ہو، اس پر فریفتہ نہ ہو۔

## وفات !

حضرت کے صاحبزادہ میاں گل محمد صاحب کا دبا ہیضہ میں جب بتاریخ ۲۹ رمضان مبارک ۱۳۰۶ھ ہجری کو انتقال ہوا۔ اور لوگ تعزیت کے واسطے آتے اور کلمہ تعزیت عرض کرتے تو آپ فرماتے کہ ہم کیا یہاں بیٹھے رہیں گے؟ ہم بھی چلنے کو تیار ہیں۔ رنج کس بات کا کریں۔

اسی زمانہ میں ایک طالب علم آیا اور اس نے پڑھنے کے واسطے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہے اگر وہاں نہ گیا تو تم فلاں وقت آنا سبق شروع کرادیں گے۔

انفاقاً جس وقت آپ کو دفن کر رہے تھے وہ طالب علم آیا اور اپنا قصہ مذکورہ سنایا۔

انتقال کے روز صبح کو فرمانے لگے کہ آج حضرت صاحبِ قصوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے شاید کہ لینے آئے ہیں۔

اور اس روز بعد حلقہ ادیبوں کی وفات اور حیاتِ دائمی کا بہت دیر تک ذکر فرماتے رہے اور پھر دوپہر کو تیس لوگ فرمایا۔

بعد زوال بہت جلد بیدار ہوئے۔

خود مسواک کرنے لگے۔

اور مؤذن کو فرمایا۔

”جلد اذان کہو!“

چنانچہ اس نے اذان کہنی شروع کی آپ جواب اذان دیتے گئے!

جب کلمہ استہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا آپ اس کا

جواب دیتے ہوئے پیچھے کو جھکتے چلے گئے اور فرشتہ مسجد پر لیٹ گئے اور

اسی وقت جان بجاناں تسلیم کی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اولاً سب کو شبہ ہوا کہ سکتہ پڑ گیا ہے مگر آخر کار یقین ہو گیا۔ کہ آپ

واقعی انتقال فرما چکے ہیں۔

انگلے روز بروز دوشنبہ بتاریخ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۰۶ھ کو دفن کیا۔

# حضرت مولانا غلام مرتضیٰ رح

## بیربلک شریف ضلع سرگودھا !

آپ ایک ایسے محاندان کے چشم و چراغ تھے جنہیں علم و ولایت کی لپشتوں سے  
 ورثے میں ملتے چلے آ رہے تھے۔ آپ ۱۲۵۱ھ میں بیربل شریف کے علاقہ شاہ پور میں پیدا  
 ہوئے۔ ولادت سے قبل ہی ایک مہر و کامل نے آپ کے والد ماجد کو آپ کی پیدائش اور  
 علوم مرتبت کی بشارت دے دی تھی۔ ابھی زندگی کی تیز بہاریں دکھی تھیں کہ شفقت  
 پرری سے محروم ہو گئے۔ والد ماجد کی حیات مبارک ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا بعض  
 دوسری ابتدائی کتابیں بھی پڑھ چکے تھے۔

لڑکپن ہی سے آپ کے اخلاق اور کردار کی جھلک دیکھ کر ہر صاحب نظر سمجھ جاتا تھا  
 کہ آپ ماورزاد ولی ہیں۔ اس کی بشارت آپ کے کئی ہم عصر اولیاء نے دی تھی۔ والد ماجد  
 کی وفات کے بعد کئی جگہ حصول علم کے لیے تشریف لے گئے مگر جمعیت خاطر کہیں نہ ملا  
 آخر حافظ قائم صاحب مرحوم کے مشورہ سے للہ شریف ضلع بہلم میں حضرت خواجہ

غلام نبی لٹھیؒ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور وہاں کچھ دنوں کے قیام سے، نحو صرف، علم کلام، منطق، بیان، معانی، اصول، فروع، حدیث، ہیئت اور علم فلسفہ پر عبور حاصل کیا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں دستارِ فضیلت باندھ کر اور ظاہری و باطنی کمالات کے حصول کے بعد اپنے آبا و اجداد کی مسند پر بیٹھے اور تدریسِ علم میں مشغول ہو گئے۔ ایامِ تعلیم میں ہی آپ نے قطب الاقطاب حضرت مولانا خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری دامم الحضورؒ کے دستِ حق پر بیعت بھی کی۔ ایامِ طالب علمی میں یہ حال تھا کہ کسی طالب علم کے ساتھ بھی زائد بات نہ کرتے تھے۔ ہر وقت مطالعہ کتب میں مشغول رہتے۔ جس کو چے میں سے آپ شہر میں داخل ہوتے اور جس کو چے سے گزر کر قضاے حاجت کے لیے شہر سے باہر تشریف لے جاتے ان دونوں کو چوں کے علاوہ آپ نے شہر کا کوئی دوسرا کوچہ نہ دیکھا تھا۔

جب درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو چند ہی دنوں میں تشنگانِ علم کی بھاری تعداد جمع ہو گئی اور مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ رہی۔ بڑے بڑے متبحر اور ذکی عالم و ورور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ طلباء کی کثرت کے باوجود کبھی ملال نہ فرماتے۔ آپ کو علمی نوادرات جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اگر کسی نایاب کتاب کا پتہ چلتا تو اس کے حصول کے لیے زبردست کوشش فرماتے۔

آپ کی علمی فضیلت کا شہرہ ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا۔

کم گوئی آپ کی فطرتِ ثانیہ تھی۔

کبھی امتحان کی غرض سے کسی دوسرے سے کوئی سوال نہ کرتے تھے۔

آپ کو حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری دامم الحضورؒ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حوزہ البحر کی بھی اجازت تھی۔

آپ کو علمی نوادرات جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ کسی نایاب کتاب کا جہاں کہیں پتہ چلتا اسے حاصل کرنے کی بے حد کوشش فرماتے۔ یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ اگلے زمانے کے علما زیادہ نیک اور باعمل تھے اس لیے ان کی منقولہ کتابیں یا جن کتابوں پر وہ پڑھتے پڑھاتے تھے بابرکت ہوتی ہیں۔ یہ بات اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ علم کے شیدائی تھے۔

کم گوئی آپ کی جبلت تھی لیکن اگر کوئی شخص اپنی قابلیت جتانے کے لیے یا تعلیٰ ظاہر کرنے کے لیے کوئی بات کرتا تو آپ اس سے کوئی ایسا سوال کرتے جو اسے بالکل خاموش کر دیتا اور اسے آپ کی ہمہ دانی اور علو مرتبت کا قائل ہونا پڑتا تھا۔

آپ کی ذات نہایت عنیف تھی اکثر اسلام علیکم کہنے میں پہل فرماتے تھے۔ نہایت کریم النفس اور رقیق القلب تھے اس کے باوجود آپ کی مجلس میں کسی کو دم مارنے یا اونچا بولنے کی بھی جرأت نہ تھی۔ ہمیشہ زبان پر ذکر خداوندی جاری رہتا تھا۔ قرأت نہایت مؤثر تھی۔

عام لوگ اپنے مشکل معاملات میں آپ سے مشورہ فرماتے تھے، جس قضیہ اور مقدمہ کے فیصلے سے حکام عاجز ہوتے تھے وہ آپ کے پاس بھجھ دیے جاتے تھے۔ آپ اس خوبی سے ان کا فیصلہ فرماتے کہ فریقین پوری طرح راضی اور خاموش ہو جاتے۔

اپنی ذات کو خدمتِ خلق کے لیے اور اصلاحِ عوام کے لیے وقف کر دیا تھا



تقاعد اور توکل بہت زیادہ تھا۔

لباس میں کوئی خاص اہتمام نہ فرماتے بلکہ جو میسر آتا پہن لیتے تھے۔  
شاگردوں اور خادموں پر خاص مہربانی فرماتے۔

اہل دنیا کے ساتھ طبیعت بہت کم مانوس ہوتی تھی،  
جو کچھ آتا درویشوں اور مسکینوں کو کھلا دیتے۔

سینکڑوں اہل حاجت روزانہ آتے تھے لیکن آپ کسی کو خالی اور مایوس نہ  
لوٹاتے، اگر پانس کچھ موجود نہ ہوتا تو دوسرے وقت آنے کا وعدہ فرماتے۔

طبیعت میں اس درجے کا انکسار تھا کہ اپنے لیے کبھی جمع کا صیغہ استعمال نہیں  
کیا۔ جس مرتبے کا آدمی ہوتا اس کے مطابق گفت گو کرتے۔

قدیم دوستوں اور ہم نشینوں کے ساتھ نہایت الفت فرماتے۔

دوسروں کی غلطیوں اور لغزشوں سے درگزر فرماتے۔

کسی کا شکوہ نہ کرتے تھے۔

اپنی تنگ دستی کا حال کسی کے آگے بیان نہ فرماتے۔ اپنی حاجت کے لیے

کبھی کسی کے پاس نہ جاتے۔

قبول دعوت سنت رسول ہے اس لیے اسے شرف قبولیت بخشے، لیکن اس

جگہ بھی خلق خدا کو ہدایت فرماتے اور اتباع شریعت پر زور دیتے۔

فقیرانہ گزران کے باوجود تقریباً ساٹھ ستر آدمی روزانہ لنگر سے کھانا

کھاتے تھے۔

رات کو بہت کم سوتے تھے۔ قائم اللیل تھے۔ اکثر فرش پر بستہ بچھا کر سوتے۔

نماز تہجد کے لیے خاص اہتمام کرتے ، اگر کوئی خادم موجود ہوتا تو وضو اور غسل کے لیے پانی لا دیتا ورنہ خود پانی نکالتے ۔

نماز فجر سے فراغت پا کر خادم اردگرد آ بیٹھتے اور ختم امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی پڑھتے ۔ پھر مراقبہ فرماتے اور حاضرین پر الفکائے مفین فرماتے توجہ میں عجیب تاثیر تھی ۔

سال بھر میں آپ دو بڑے عرس کرتے تھے جن پر خلقت کثرت سے جمع ہوتی تھی ۔ ایک عرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی ۱۲ ربیع الاول کو اور دوسرا معراج شریف بھی ۲۷ رجب المرجب کو فرماتے تھے کہ دونوں عرس ، عرسوں کے سردار ہیں ۔

عرس مبارک پر کوئی غیر شرعی رسم دیکھنے میں نہ آتی تھی ۔ وعظ کا شغل تمام رات رہتا تھا ۔

آپ صاحب تصنیف تھے ۔ رسالہ مختصر نہ ہتہ الناظرین مع شرح رد عن الریاحین کتاب مبارک مصباح الدجی اور اس کی شرح شمس الضحیٰ ، یہ علم حدیث ہیں بڑی پایہ کی کتاب ہے ۔

تحفۃ العارفين ، و ہدیۃ السالکین  
تذکرۃ المحسنات

معراج نامہ عربی

رسالہ در فضائل رمضان و عبیدین ،

آپ کے شاگردوں اور مریدین کے پاس ان کے قلمی نسخے موجود ہیں ۔ اس کے

علاوہ آپ نے کئی رسائل اور کتب لکھیں اور کئی کتابوں پر حاشیے لکھے۔  
 آپ نے جو فتوے تحریر فرمائے، اگر انہیں جمع کر لیا جائے تو ایک ضخیم  
 کتاب فتاویٰ پر تیار ہو سکتی ہے۔



ایک مرتبہ آپ ایک عقیدت مند کے پاس تشریف لے گئے۔ چند روز قیام فرمایا،  
 نماز فجر سے قبل جو آپ کی عبادت اور خاص مشغل مع اللہ کا وقت تھا، ایک مشرک  
 ناقوس بجانا شروع کر دیتا جس سے آپ کو بے حد تکلیف ہوتی۔  
 ایک روز صبح صادق کے وقت باہر تشریف لے گئے۔

بت کدہ کے پاس سے گزرے تو اپنے ایک مخلص سے جو ساتھ تھا، پوچھا  
 کہ وہ کون شخص ہے جو ناقوس بجاتا ہے۔

خادم نے اشارہ کیا کہ وہ شخص سامنے بت کدہ میں بیٹھا ہے، آپ نے  
 ایک جلالی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انشاء اللہ پھر ناقوس  
 نہیں بجائے گا۔

وہ شخص اسی روز بیمار ہوا۔

اور دوسری رات ناقوس بجانے کے وقت سے پہلے ہی چل بسا۔



ایک مرتبہ آپ حکیم نیک عالم صاحب اور مولوی محبوب عالم کی استدعا  
 پر میکو وال ضلع گجرات تشریف لے گئے۔ گاؤں کے مالکان میں سے ایک  
 شخص رعونت سے آپ کے متعلق بے ادبی کے کلمات کہہ گیا اور کہا کہ یہ لوگ فقیر

نہیں ہوتے۔ بعض مسنوی دکان بناتے ہیں۔

جب آپ تشریف لے گئے تو اسے خیال پیدا ہوا کہ آخر اس شخص کو ایک نظر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔

وہ اس مسجد میں آیا جہاں آپ کا قیام تھا۔

حکیم نیک عالم صاحب نے پوشیدہ عرض کیا کہ یہ شخص آپ کے کمالات کا مشککہ ہے۔

آپ نے ایک نظر اسے دیکھا۔

ایسی تاثیر ہوئی کہ اس کا قلب جاری ہو گیا۔ اور وہ بے خود ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو قدموں پر گر پڑا۔

اور !

شرف بیعت سے مشرف ہوا۔

✦

ایک مرتبہ سرسبز شریف جاتے ہوئے نخل گجرات میں پنڈی لالہ میں بعض عقیدتمندوں کی خواہش پر دو تین روز کے لیے قیام فرمایا۔ ایک شخص نے آپ کی دعوت کی۔

آپ کے ساتھ اس وقت پندرہ بیس آدمی تھے۔ کھانا ان کی تعداد کے مطابق تیار ہوا۔

اس روز جمعہ تھا خلقت کا ایک ہجوم آپ کی زیارت اور آپ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئی۔ ایک سو سے زائد افراد شریک دعوت ہوئے۔ صاحب دعوت

کو کھانے کی کمی کا خطرہ تھا۔

وہ میاں احمد بخش صاحب کو اندر لے گیا اور حال بیان کیا۔

میاں صاحب نے آپ کی خدمت میں ساری بات عرض کی۔

آپ نے فرمایا کہ کھانا لا کر فقیر کے پاس رکھ دو۔ اور اسے کپڑے کے ساتھ

ڈھانپ دو۔

جب کھانا آپ کے سامنے لا کر ڈھک دیا گیا تو آپ نے اپنا دست مبارک کھانے

کے اوپر رکھا۔ اور ایک لمحہ توقف کے بعد حکم دیا کہ اب اسے مہانوں کو کھلانا شروع

کر دو، انشاء اللہ کمی پیدا نہیں ہوگی۔

تمام حاضرین شکر میں سیر ہو کر اٹھے۔

بہت سا کھانا باقی بچ رہا۔

حاضرین یہ دیکھ کر محو حیرت ہو گئے۔

❖

میاں وائٹ گونڈل آپ کا مخلص رہا۔ ایک مرتبہ مرضِ حیرت میں مبتلا ہوا۔

بہت علاج کیے گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔

آخر حاضر خدمت ہوا۔

اور عرض کی کہ

”و عافریا بیے!“

آپ نے ارشاد فرمایا کہ

”ہمارے کنویں پر (یعنی چاہِ فیضِ عام پر

جو انہی دنوں آپ نے جاری کرایا تھا،  
جا کر غسل کرو۔"

اس نے غسل کیا اور مرض بالکل ختم ہو گیا۔  
چند اور لوگوں نے جو اس مرض میں مبتلا تھے میاں دالم کے توسط سے اجازت  
چاہی۔ آپ نے اجازت دی اور وہ بھی شفا یاب ہو گئے۔  
پھر عام اجازت ہو گئی۔ جو اس مرض میں مبتلا ہو، چاہ مبارک پر جا کر غسل کرنے  
سے شفا حاصل ہوتی ہے اور یہ تاثیر اب بھی باقی ہے !



آپ نے اپنے علاقے میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی۔ لوگوں کو بدعتوں اور غیر شرعی  
رسوم سے باز رکھا۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ جو لوگ آپ کے  
پاس بیعت ہونے کو آتے ان کے صدق و عقیدت کا امتحان لے کر انہیں بیعت کرتے  
تھے۔ طریقہ قادریہ میں داخل کرتے اور سلوکِ طریقہ مجددیہ طے کراتے۔  
طبعیت میں حد درجے کا انکسار تھا۔ علما و فقرا کے آنے پر سروسو قد تعلیم کے لیے  
اٹھ کھڑے ہوتے۔

اگر کوئی متشرع عالم آتا تو اس کی امامت میں نماز ادا فرماتے۔  
طبعیت میں حد درجے کا توکل اور صبر و قناعت تھی۔  
لباس میں کوئی تکلف اور ظاہر داری نہ تھی۔  
انہوں بیگانوں پر سدا رحمی فرماتے۔

رات کو بہت تھوڑا سوتے۔ تقریباً تمام رات عبادت میں گزر جاتی۔ اور نماز تہجد کے لیے خاص اہتمام کرتے۔

آپ صاحبِ کرامت بھی تھے۔ آپ کی متعدد کرامتیں بیان کی گئی ہیں۔ آخری عمر میں آپ کو فالج کا مرض لاحق ہوا۔ شدتِ مرض کا یہ عالم تھا کہ اکثر غنودگی طاری ہو جاتی۔ لیکن اس حالت میں بھی کوئی نماز قضا نہ کی۔

## وفات !

۱۵ رجب المرجب ۱۳۲۱ھ کو غروبِ آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے طریقت و حقیقت کا یہ آفتابِ عالم تاب غروب ہو گیا۔

انا لله وانا اليه راجعون و

نماز جنازہ حضرت مولانا عبد الرسول صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین لکھنؤ شریف

نے پڑھائی۔

علماء و فضلاء اور صلحا کی بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی۔

اس وقت حضرت مولانا محمد عمر صاحب سجادہ نشین ہیں جو اپنے وقت کے

مردِ کامل اور مردِ خدا و دستِ ہیں !

# مولانا غلام دستگیر قصوری

آپ جیہ عالم، زبردست فقیہ، متقی، شب بیدار عالم باعمل تھے۔ حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری سے بیعت رکھتے تھے اور انہیں سے ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے۔ خاص کر علم حدیث میں دسترس حاصل کی۔ آپ کو حضرت خواجہ قصوری سے نسبت دامادگی اور خواہر زادگی بھی تھی اور مدینہ طیبہ کی زیارت اور حج مبارک سے بھی مشرف ہوئے تھے۔

خواجہ قصوری کے حلقے میں اکثر شریک رہتے اور فیض حاصل کرتے۔ دین کے متعلق بعض متنازعہ امور اور مسائل کے حل میں گہرا شغف رکھتے تھے اور اکثر اس میں مصروف رہتے تھے۔ حدیث میں آپ کو زبردست درک حاصل تھا۔

حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب قصوری کو حضرت خواجہ صاحب کی طرف سے احادیث کی تدریس، شرح و تراجم اور تفاسیر کلام مجید کی اجازت حاصل تھی، جو کلاہ شریف اجازت سند احادیث کے ہمراہ حضرت خواجہ قصوری کو حضرت محدث دہلوی نے عنایت فرمائی تھی۔ آپ نے وہ کلاہ بھی حضرت مولانا غلام دستگیر کو



سند دیتے وقت عطا کر دی تھی۔

آپ اپنے وقت کے بے مثال اور عالم باعمل تھے۔

جن لوگوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف طوفان اٹھایا تھا آپ نے ان سے بڑے بڑے مناظرے کیے اور انہیں ہر مرتبہ بے بس کر دیا۔

آپ نے سزادوں لوگوں کو راہِ مستقیم سے بھٹکنے سے بچایا اور انہیں دینِ اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا۔

آپ خانوادہ حضرت خواجہ قصوری کے وہ روشن چراغ تھے جنہوں نے مشرک و بدعت کی تیرہ شبی میں توحید کی روشنی پھیلانی اور ہزاروں تشنگانِ علم کو سیراب کیا۔

متعدد کتابیں اور رسائل لکھے۔ تحفہ دستگیر، جواب اثنا عشریہ اور فرقہ واپیہ بھی خوب لکھا جو کہ اب تک مطبوعہ شکل میں دستیاب ہے۔  
اس کے علاوہ !

عمدة البیان فی اعدان مناقب النعمان بھی خوب تحریر فرمایا۔

ایک رسالہ تقدیس الوکیل بھی آپ کی یادگار ہے۔

رسالہ تقدیس الوکیل تحریروں کے جواب میں لکھا۔ اس کے علاوہ رسالہ

جمعہ شریف بھی خوب لکھا  
رسالہ عمود المقلدین بہ الہام القوی المبین رسالہ ہدایتہ شیعین، رافضیوں کے رد میں لکھا۔

غرض کہ اس دور میں اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں کے زوال کے سبب دین

قیم پر جو اتہام باندھنے شروع کیے تھے اور جس طرح مسلمان مشاہیر پر الزام تراشیاں

کی جا رہی تھیں اور اسلامی تعلیمات کو ناقابلِ عمل ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں

جاری تھیں، آپ نے ان سب کا جواب لکھا۔ چونکہ آپ کو علوم متداولہ پر پورا عبور حاصل تھا اس لیے اسلام پر کیے گئے تمام اعتراضات کا رد لکھنا صرف آپ ہی کا کام تھا۔ اس طرح آپ نے اپنے بزرگوں کی سنت کو زندہ رکھا اور قلمی جہاد کیا، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

وفات ۲۰ محرم ۱۳۱۵ھ کو ہوئی۔

ابن شد و ائنا البیر را محبون ط

مزار مبارک قصور شریف کے عظیم قبرستان میں ہے جہاں آپ اپنے بزرگوں کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں۔

## حضرت مولانا حافظ نور الدین چکوڑی شریف گجرات !

حافظ صاحب قبلہ عالم خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری دامم المحضوری کے اہم خلفا میں سے تھے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم تھے، تمام علوم متداولہ پر پورا عبور اور دسترس تھی۔ آپ کو حضرت خواجہ قصوری سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ آپ نے فقہ، حدیث، منطق، فلسفہ، ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا۔ خواجہ قصوری سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ نے چکوڑی شریف میں جا کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ طالبانِ حق اور تشنگانِ علم کی بہت بڑی تعداد دور دور سے کھینچی چلی آتی تھی۔ ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔

۱۳۰۲ھ میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو سدھارے۔

## شیخ عطاء اللہ قندھاری

شیخ عطاء اللہ قندھاری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے قندھارے رہنے والے ایک بزرگ تھے۔ تحصیل علم کے لیے یہاں تشریف لائے۔ حضرت قبلہ عالم خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوریؒ نے اپنے مکتوبات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عجیب قدرت الہی ہے کہ عرصہ پانچ چھ سال کا گزرا کہ ایک شخص عطاء اللہ نامی تحصیل علوم کے بعد میرے پاس آیا، اور بیعت کر کے اجازت مانگی کہ آپ مجھے تحصیل علوم کے لیے وہی جانے کی اجازت

دیں۔ تحصیل صحاح کے بعد وہ حضرت قبلہ پیر و مرشد شاہ غلام علی دہلویؒ کے مزار اقدس پر معتکف ہوا۔ ذکر اسم ذات نفی اثبات میں مشغول تھا کہ لطائف خمسہ و انوار ثلاثہ اس پر ظاہر ہوئے لیکن وہ ہر مقام میں امتیاز نہ کر سکا، اس وجہ سے وہ کچھ دل گرفتہ اور شکستہ خاطر تھا۔ آخر حضرت قبلہ شاہ صاحبؒ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں یہ منزل طے کرنے کے لیے تصور شریف جانا چاہئے۔ چنانچہ اسی وقت سب کام چھوڑ چھاپڑ تصور شریف میں حاضر ہوا۔ اور دو ماہ کامل میں کمال طاقت و وجدان حاصل کر لیا جو بیان سے باہر ہے، یہاں تک کہ ایک توجہ سے دریافتِ اطہار کر لیتا جو حب و صرفہ و معبودیت مطلقہ میں آخری مقام ہے۔

چنانچہ جب شیخ عطاء اللہ قندھاریؒ سلوک کی تمام منازل طے کر چکے تو حضرت خواجہ قصوریؒ نے انہیں توجہات اور خلافت با اجازت دے کر رخصت فرمایا۔ انہوں نے قندھار کے علاقے میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی۔ اس طرح حضرت خواجہ قصوریؒ و امم الحضورؑ کا فیض پاک و ہند سے

افغانستان بھی پہنچا !

حضرت مولانا غلام محمد صاحب مرالی ڈیرہ اسماعیل خاں !  
 موضع مرالی ڈیرہ اسماعیل خاں سے ایک میل دور ہے مولانا غلام محمد صاحب  
 اس قصبے کے رہنے والے تھے۔ آپ کے بڑے خلفا میں سے تھے درس و تدریس  
 کا شغل رکھتے تھے اور طالبانِ حق کو علم ظاہری و باطنی سے آراستہ کرتے۔  
 حلقہ توجہ بھی قائم کرتے اور محض نظر کی بدولت فیضِ عام کی دولت تقسیم کرتے  
 جاتے تھے بے مثل سخی تھے۔

جناب شاہ محمد منظر صاحب احمدیہ سعیدیہ نے ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔  
 اکثر وقت گریہ و زاری میں گزارتے۔ درویشوں اور مسکینوں کو پوشیدہ طور پر  
 بہت کچھ دیتے۔

آپ کو اجازت اور خلافت حاصل تھی۔  
 آخری عمر میں لذتِ عبادت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اور بوجہ بسیار گریہ  
 کے بصارت جاتی رہی تھی۔

۱۲۹۷ھ ۱۶ ماہ رجب المرجب جمعہ کی شب کو مرالی شریف میں انتقال  
 فرمایا۔ آپ کی دختر نیک اختر مسات غلام زہرا لڑکیوں اور عورتوں کو  
 قرآن مجید اور فقہ کی ضروری تعلیم دیتی ہیں انہیں اپنے والد بزرگوار سے  
 طریقہ اجازت حاصل ہے !

## حضرت مولانا مفتی غلام محی الدین ملک میانی !

آپ حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری کے بڑے خلفا میں سے تھے اپنے ہم عصروں میں فقہ کے جید عالم تھے۔ جمعہ کے روز وعظ فرماتے۔ وعظ اس قدر موثر ہوتا تھا کہ سامعین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ تمام عمر مسجد میں گزار دی۔ اکثر اعتکاف کی حالت میں رہتے تھے۔ درس و تدریس کا شغل جاری تھا۔ مریدین بھی مسجد میں ہی حاضر ہوتے۔ زیر دست متقی تھے۔ مطالعہ اور مراقبہ کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ کسی وقت بھی فارغ نہیں ہوتے تھے اوقات کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے۔ آپ کی یہ بڑی زیر دست کرامت تھی کہ جو بے نماز آپ کی محفل میں آ بیٹھتا ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر نماز کا پابند ہو جاتا۔

۱۳۰۶ھ ماہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ تھی کہ فرشتہ اجل کو لیبیک کہا اور قصبہ میانی میں یہو ند خاک ہوئے۔

انا لله وانا اليه راجعون۔

آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا مفتی غلام احمد صاحب حاجی الحرمین بھی حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری کے مرید اور بیعت تھے۔

## مولانا بدرالدین لدھیکی !

آپ حضرت خواجہ قسوری علیہ الرحمۃ کے ممتاز خلفا میں سے تھے۔ اپنے وقت کے بے بدل عالم اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے خلفا میں فنا فی الرسول حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قلعہ والے عثمان گنج لاسور ایک ممتاز صوفی ہوئے ہیں۔ خواجہ قسوری کا یہ فیض تھا کہ ان کے خلفا کے خلفا بھی وقت کے جید عالم، اور صاحب کرامت بزرگ ہوئے۔

حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قلعہ والے کا اور ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ نور محمد صاحب کا ذکر بھی تبرکاً شامل کیا جا رہا ہے۔

یہ عظیم روحانی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ستر لاسور میں آپ پر صاحب قلعہ والے کے نام سے مشہور ہیں آپ کا مزار مبارک عثمان گنج لاسور میں انوارِ مرتضائیہ کا مرکز ہے۔ آپ اس سلسلہ مرتضائیہ کے بانی تھے۔

آپ کی پیدائش ۱۸۱۳ء کے لگ بھگ موضع بھینی ضلع شیخوپورہ میں ہوئی۔ بعد ازاں آپ نے موضع قلعہ لعل سنگھ ضلع شیخوپورہ میں سکونت اختیار کر لی۔

آپ نے حصولِ تعلیم کے لیے کئی سفر کیے۔ اسی سلسلے میں بہاولپور تشریف

یہاں آپ نے عربی، فارسی، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، اصول معانی، تفسیر، حدیث، فقہ، ہیئت کے علاوہ متعدد و مروجہ علوم حاصل کیے۔  
 مزید علم حاصل کرنے کا شوق آپ کو لاہور لے آیا۔ ۱۹۰۵ء میں اعلیٰ والی مسجد  
 میں قیام کیا۔

ایک عرصہ تک رشد و ہدایت اور تبلیغ حق کے بعد جنوری ۱۹۰۳ء کو آپ کا  
 وصال ہوا۔ مستری احمد بخش آپ کے مرید خاص نے آپ کا مزار مبارک تعمیر کروایا۔  
 مزار کی تعمیر بالکل حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے عین  
 مطابق کرائی گئی ہے۔

آپ کے خلفا میں سب سے بلند مرتبہ آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ  
 نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ انہیں بھی فنا فی الرسول کا مقام حاصل تھا۔ آپ  
 سر شہ فیض تھے، والد مرحوم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور انہیں کی طرح سلوک  
 کی منزلیں طے کیں۔ آپ کا مزار حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ فنا فی الرسول رحمۃ اللہ علیہ  
 کے دربار میں مشرقی جانب واقع ہے

یہاں آپ نے عربی، فارسی، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، اصول معانی، تفسیر، حدیث، فقہ، ہیئت کے علاوہ متعدد و مروجہ علوم حاصل کیے۔ مزید علم حاصل کرنے کا شوق آپ کو لاہور لے آیا۔ ۱۸۵۵ء میں اہلی والی مسجد میں قیام کیا۔

ایک عرصہ تک رشد و ہدایت اور تبلیغ حق کے بعد جنوری ۱۹۰۳ء کو آپ کا وصال ہوا۔ مستری احمد بخشؒ آپ کے مرید خاص نے آپ کا مزار مبارک تعمیر کروایا۔ مزار کی تعمیر بالکل حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے عین مطابق کرائی گئی ہے۔

آپ کے خلفا میں سب سے بلند مرتبہ آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ نوز محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ انہیں بھی فنا فی الرسول کا مقام حاصل تھا۔ آپ سمر چشمہ فیض تھے، والد مرحوم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور انہیں کی طرح سلوک کی منزلیں طے کیں۔ آپ کا مزار حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ فنا فی الرسول رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مشرقی جانب واقع ہے



حضرت خواجہ

# نور محمد صاحب فنا فی الرسولؐ !

پیدائش !

جس سال حضرت مستری احمد بخش مرحومؒ نے یزین خریدی اور حضرت خواجہ فنا فی الرسولؐ نے یہاں سکونت اختیار کی، اسی سال ایک روز صبح کے وقت حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد صاحب کی ولادت سعادت و سہولت سے ہوئی۔ اور زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی مرید نے کہا حضور گھر تشریف لے چلے۔

فرمایا۔ میں نے اپنے لڑکے کی عمر دراز اور منظوری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی ہے۔ چلے کے بعد فرمایا کہ بچے کو لاؤ، اسے اپنی آغوش میں لے کر بیعت کیا اور خلافت عطا فرمائی اور نور محمد نام رکھا۔

حضرت خواجہ عالم نے ابتدائی تعلیم مدرسہ حمیدیہ لاہور میں حاصل کی۔ پھر درس نظامیہ کا نصاب مفتی اعظم حضرت مولانا محمد یار صاحب خطیب سنہری مسجد لاہور سے تمام کیا۔ آپ صرف و نحو، منطق و فلسفہ، تفسیر و حدیث، فقہ ادب، عروض و معانی، اصول حدیث اور علم مناظرہ کے عالم بے بدل تھے۔

مارچ ۱۹۵۰ء میں آپ عرس مبارک کے موقع پر مدین سے خطاب فرما رہے تھے کہ آپ کا مرید رائے پیر بخش ایک پلنگ اور بستر لے کر آیا اور سامنے سے گزرا اتفاقاً آپ کی نظر پڑ گئی۔

فرمایا !

”لو ! میرا جنازہ لے کر آ گیا ہے۔“

چنانچہ ۲۱ مئی ۱۹۵۰ء کو واصل حق ہوئے۔

# شجره نقشبندیہ

از حضرت مولانا مولوی صالح محمد کنجاہی

خواجه ما اُن غلام محی الدین <sup>۲</sup>	مرشد اور رہبر راہ یقین
صیقل دل بہم و عزم زو منجلی	دستگیر او غلام شہ عسلی
جہاں جاناں رحمتہ اللہ علیہ	میرزا مظہر رشید خا فقیہ
شیخ سیف الدین قاطع و ہمہا	سید نور محمد با صفا
رتبہ دنیا و دین روشن جبین	خواجه اشق معصوم شاہ متقین
شہ مجتہد و الف ثانی و دستگیر	خواجه احمد پیر سر مندی منیر
خواجه جگی بہا و تاج خواجگی	بر سر باقی باللہ بشکی
خواجه زائد پیشوائی متقین	پیر او درویش شاہ ملک دین
بندگی یعقوب چرخ نورجاں	ناصر الدین شہ عبید اللہ بدال
برضا ر اسم اللہ نقشبند	خواجه عالم بہا و الدین بلند
شیخ سہاسی است بابا با کمال	پیشوا خواجہ عبد علی رامینتی
عبدالوانی خواجہ عبدالانی لقی است	عارف ریوگری از شوق مست
خواجه او فارحدی بو عسلی	پیر بہاں خواجہ یو یوسف ولی
عارفان را شاہ خواجہ پایزید	خار تانی بو الحسن شیخ سعید
آفتاب ملت پیغمبری	جعفر صادق امام حیدری

رہبرش سلمان پارس شاہ دین  
پر ہمہ اصحاب میدار و سبق  
باعث ایجاد ارض و ہم سما

نواجہ اشق قاسم امام زایدین  
پیرا و صدیق اکبر نور حق ،  
سرور عالم محمد مصطفیٰ

ما زارا ہم زخیل صالحان

یا علی باطنی صالحان

صدورود از حق بروج مصطفیٰ

والسلام علی من اتبع الهدی

## شجرہ قادریہ

از حضرت مولانا مولوی صالح محمد کنجاہی

الحمد الخالق عرش بریں کہ رہبر عالی و ادب  
اں مہر سپردین علی شہ عبدالرسول قبول خدا

رہبر او والد او بقیق با چہرہ روشن خضر جبین  
اں شیخ غلام محی الدین شاہنشاہ کشور صدق و صفا

رہبر او شاہ غلام علی در خطا سر و باطن پیرولی  
ہم کاشف راز خفی و جلی ہم واقف سر خوف و رجا

اں مرزا منظر جان جان ، کشف رموز و ستر نہاں  
مہم نہ ریش خستہ دلان ہم بہر سنیان عین شفا

پس پیش شیخ ولی عابد، سلطان و لایت عبد احد  
 رسبر او شیخ سعید ابد، اُن عارف کامل پرید  
 پس حضرت علی رضار ہبر، ہم موسیٰ کاظم نیک سیر  
 و اُن صاحب صدق شہی جعفر، ہم حضرت باقر پرید  
 اُن زین العابد سعید علی، سجاد و نشین بر بان جلی  
 ہم پاک امام حسین ولی، و اُن حیدر صدر شیر خدا  
 احمد سر بندی شیخ امم، سلطان مجدد الف دوئم  
 پس شاہ سکندر اہل کرم، ہم شاہ کمال اُن بحر سخا  
 پس شاہ فضیل اُن پر جہاں، ہم ثانی شاہ گدار حمان  
 و اُن شمس الدین و حیدر ماں، پس شاہ گدار حمان اولی  
 صحرائی سید شمس الدین، ہم سید عقیل و لیل متین  
 پس حضرت سید بہاؤ الدین، ہم عبد الوہاب اُن شہ ما  
 اُن شرف الدین بخدا، شہ عبد الرزاق اُن نور  
 در بحر طریقت در زور، در ظاہر و باطن نور صفا  
 شہ عبدالقادر محی الدین، خورشید حقیقت ماہ و یقین  
 از فیضش زندہ دین متین، ہم عوث الا عظم ہر دوسرا  
 مخزومی ابو سعید ازل، بو الحسن علی سلطان اجل  
 ابو الفرح ولی کامل اکمل و اُن عبد الواحد شیخ علی

پیرو جہاں حضرت شبلی، شیخ جنسید ولی ازلی  
 و آن سرری سقطنی شاہ ولی، معروف کوفی نور بد  
 و اورد رشید پیرو جوان، عمی شہ ملک حبیب جہاں  
 شہ لبصرہ حسن سلطان زمان و آن حیدر صفر شیر خدا  
 سلطان دو عالم ختم رسل، آنحضرت مقصد اقر و نقل  
 ہادی سبیل ہم منظر کل، مختار امور ملک قضا  
 یارب بظہیل این پاکان کن صالح مارا در دو جہاں  
 جان ساز منور از عرفان، بروین محمد شبتنا !

دو جہاں بزیر نگین مہر نام گنج بخش  
 سیدالسادات و نور مصطفیٰ و مرتضیٰ  
 بادشاہ اولیاء و الا قدر عالی محل  
 پیر کامل مرشد و ہادی مکمل راہنا  
 جو دعائم پیش جودش نیست یک از الف  
 گر ہی خواہی کہ بینی بر زمین باغ ارم  
 بر مزار پاک او ضد شعلہ ہائے نور حق  
 معتقد را تاج عزت می نهد بفرق سر  
 ہر کہ آمد با ارادت صد سعادت یافت او  
 جن و انسان و ملک منقاد و رام گنج بخش  
 گردش چرخ بریں باشد بکام گنج بخش  
 سلم سفت آسمان کمتر ز نام گنج بخش  
 بو عرفان الہی در مشام گنج بخش  
 پنچہ شیطان شکستہ زور تمام گنج بخش  
 روضہ انور مقدس میں مقام گنج بخش  
 روشن از صبح و رخشاں بہت شام گنج بخش  
 گردن منکر ز بند برداں حسام گنج بخش  
 ہر کسے شد بہرہ یاب از فیض عام گنج بخش

از چینی درگاه عالی بچکپس محروم نیست  
 کره نفس است دائم در کجی و سرکشی  
 روز و شب و روز با هم هست نام پاک تو

در دلم جز آرزوی دیدن دیدار نیست  
 از خدا خواهم که یا بدو پره ام دیدار او  
 گنج و عرفان و عنایت نیز گنج عافیت

هر کما اندک عمل از من میرشد بس است  
 بر زبانش میفرستم صد سلام و صد دعا

بہتر از نقد و گمماست و ام گنج بخش  
 کس نگردد اند مطیعش جز لگام گنج بخش  
 اسم اعظم یافتم من پاک نام گنج بخش

شکر حق افتاده مرغ دل بدام گنج بخش  
 گوش هم خواهد شنیدن یک کلام گنج بخش  
 کن عطا یارب باین مسکین من گنج بخش

تا قیامت مرت و اردو جبره جام گنج بخش  
 بر امید آنکه یابم ہم سلام گنج بخش

از دل و جانم غلام شاه میراں محی الدین  
 نیز از فضل خدا هستم غلام گنج بخش

فہم الحمد کہ کتاب انوار محی الدین طویل جدوجہد اور محنت و کاوش کے بعد قارئین کرام تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تصنیف و تالیف میں جن کتب و رسائل سے مدد لی گئی ہے، وہ حسب ذیل ہیں :

- ۱۔ انوار مرتضویہ
- ۲۔ تحفہ رسولیہ
- ۳۔ دیوانِ حضوری
- ۴۔ تحفہ دستگیریہ
- ۵۔ حالاتِ حضراتِ شاخِ نقشبندیہ مجددیہ
- ۶۔ مکتوباتِ حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری
- ۷۔ خطباتِ خواجہ قصوری
- ۸۔ انوارِ مرتضائیہ
- ۹۔ بستانِ معرفت
- ۱۰۔ مقاماتِ منظریہ
- ۱۱۔ ملفوظاتِ چہلِ مجالس
- ۱۲۔ رسالہ فیضِ الاسلام
- ۱۳۔ ملفوظاتِ حضرت مولانا غلام نبی لکھوی
- ۱۴۔ حدیقۃ الاولیاء
- ۱۵۔ مقاماتِ احمدیہ سعیدیہ
- ۱۶۔ مقاماتِ طیبین
- ۱۷۔ سلسلۃ الاولیاء



# قصیدہ شفاعی

از حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ

گنہ گارم سیہ کارم شفاعت یارسول اللہ

خراب و خستہ و خوارم شفاعت یارسول اللہ

یارسول اللہ! میں گنہگار اور سیہ کار ہوں یارسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے، یارسول اللہ میں پریشان اور خوار ہوں، آپ کی شفاعت درکار ہے،

بجز تو کس شفیعے نے کسے چون تو مطیعے نے

بجز حق رفیعے نے شفاعت یارسول اللہ

آپ جیسا نہ کوئی شفیع ہے اور نہ کوئی اللہ کا مطیع ہے اور نہ کوئی آپ جیسا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یارسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے

ترا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبے

توئی در گراں یکتا شفاعت یارسول اللہ

آپ کا ثانی دنیا آخرت میں پیدا ہی نہیں ہوا (اور نہ ہوگا) آپ کی ذات قیمتی موتی کی مانند ہے، یارسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے،

دو عالم شد برائے تو ہمہ زیر لوائے تو

رضائے حق رضائے تو شفاعت یارسول اللہ

دونوں جہان آپ کے لئے پیدا ہوئے، قیامت کے دن سب لوگ آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، آپ کی رضا حق کی رضا ہے، یارسول اللہ آپ کی

عرب را بادشاہے تو عجم را دستگا ہے تو  
 دو عالم را پناہے تو شفاعت یا رسول اللہ  
 عرب کو آپ سے بادشاہی نصیب ہوئی اور عجم کو آپ سے قوت و نصرت کی دولت ملی  
 آپ ہی دو جہاں کی پناہ ہیں، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے،

حیات دائمی داری ثبات و قائمی داری  
 چودریا جو دتو جاری شفاعت یا رسول اللہ  
 آپ کی حیات دائمی ہے، آپ مالک ثبات و قیام ہیں، آپ کا جو دوسخا دریا  
 کی طرح رواں دواں ہے، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے۔

توئی پشت و پناہ من بسوئے تست راہ من  
 بتو ہر دم نگاہ من شفاعت یا رسول اللہ  
 یا رسول اللہ آپ ہی میرے پشت و پناہ میں اور میرا راستہ وہی ہے جو آپ کا راستہ ہے  
 میری نگاہ شوق آپ پر لگی ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے۔

شہا بے کس نوازی کن طبیباً چارہ سازی کن  
 دوائے درد و عصیانم شفاعت یا رسول اللہ  
 یا رسول اللہ! آپ ہم بے چاروں کو اپنی رحمت سے نوازیں، میں گنہگار اور بیمار  
 ہوں، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے۔

قصوری را حضوری کن دوائے درد و دوری کن  
 دلہم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ  
 آپ قصوری (قصور والا) کو صاحب حضوری کر دیں اور دوری کے درد کا چارہ فرمائیں  
 اور اس کا قلب روشن فرمائیں، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت درکار ہے۔